



آية الكرسي

مُشكلاتٌ كمال



آية الكرسي

مُشكلاتٌ كامل



## ابتدائیہ

اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں موجود آیتہ الکرسی کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ مسلم تشریف کی ایک حدیث پاک ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن مجید میں موجود آیات مبارکہ میں ثواب کے لیے آیتہ الکرسی بزرگ ترین ہے۔ آیتہ الکرسی آسیب اور شیطان لعین کے دفعیہ کے لیے بہت خوب ہے۔ ابن حبان نے نقل کیا ہے کہ جو آیتہ الکرسی کو اپنے مال میں رکھے یا پڑھ کر اپنی اولاد پر دم کرے یا کہیں لکھ کر آویزاں کرے تو شیطان ہرگز اس کے مال اور اولاد کے قریب نہیں آئے گا اور نقصان نہ پہنچائے گا۔

چونکہ اس مادی دور میں ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے اور کوئی نہ کوئی مشکل ضرور اس کی راہ میں رکاوٹ بنے کھڑی ہو جاتی ہے کسی کو مالی پریشانی ہوتی ہے کوئی معاشی مشکل کا شکار ہوتا ہے کوئی اپنی نافرمان اولاد کے ہاتھوں پریشان ہے کوئی بیروزگاری کے مسئلہ سے دوچار ہے تو کوئی قرض کے بوجھ سے سبکدوش ہونے کے لیے کوشاں ہے۔ کسی کو دشمن کی طرف سے نقصان پہنچائے جانے کا خطرہ ہے کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے۔ غرضیکہ کسی نہ کسی طرح ہمارے اس معاشرے میں ہر کوئی ضرور

مشکل و پریشانی میں مبتلا ہے اور تو اور ذمہ سون اور آسودگی کا نہ ہونا بھی پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کا فرما کر سہ ہے وہی ہر ایک کی مشکل کو حل فرماتا ہے اور پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کی ہر آیت مبارکہ اور سورۃ میں اسرار و خواص مخفی رکھے ہیں۔ ان میں سے آیتہ انکرسی کی فضیلت و تعریف احادیث مبارکہ میں بڑی وضاحت سے بیان کی گئی ہے۔

زیر نظر کتاب میں آیتہ انکرسی کے حوالے سے اس کے مخفی اسرار و خواص کا مختصر طور پر احاطہ کیا گیا ہے۔ بے شمار فوائد اور فیوض و برکات کی حامل یہ کتاب ہے۔ مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے کے ضمن میں اس کتاب سے بہتر طور پر استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہر طرح کی پریشانی اور مشکل کا حل اس میں موجود ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت مبارکہ اپنے اندر الگ الگ خواص و شفاءئی اثرات رکھتی ہے۔ بے شک آیتہ انکرسی کی ایک اپنی شان ہے ایک مقام و مرتبہ ہے بے شمار فضیلت ہے۔ اس لیے آیتہ انکرسی کے فیروع مشکلات کا حل نہ صرف بہت جلدی ممکن ہے بلکہ یقینی ہے۔ امیہ ہے کہ قارئین کتاب ہذا کو پزیرائی کی سند بخشیں گے اور دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو بھی کتاب ہذا کی افادیت سے آگاہ کر کے اس فیض کو عام کرنے میں اپنا فرض ادا کریں گے

محمد الیاس مادل



# آیتہ الکرسی کی فضیلت

بلاشبہ قرآن مجید کی تمام آیات مبارکہ فضائل و برکات کے اعتبار سے ہر مسلمان مرد و عورت کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھنا اور سننا بے شمار فوائد و برکات کے حصول کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ (بخاری)

جس طرح قرآن مجید کی دیگر آیات مبارکہ اپنے اندر خواص و برکات رکھتی ہیں اسی طرح آیتہ الکرسی بھی بلند و بالا شان و عظمت والی آیتہ مبارکہ ہے اسکی بہت زیادہ فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے اور بزرگان دین نے بھی آیتہ الکرسی کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ذیل میں اسی حوالے سے آیتہ الکرسی کے فضائل کا بیان کیا جاتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صدقہ فطر کی حفاظت کا کام میرے سپرد فرمایا۔ ایک رات ایک آبنوال آیا اور غلہ بھرنے لگا میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ میں بتھے

حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمتِ اقدس میں پیش کروں گا تو وہ کہنے لگا کہ میں محتاج اور عیال دار ہوں، سخت ضرورت مند ہوں چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ! تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! اس نے شدید حاجت اور عیال داری کا واسطہ دیا تھا۔ اس لیے مجھے اس پر رحم آگیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے وہ پھر آئے گا۔ اس پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا اس لیے کہ یہ بات حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے چنانچہ میں (رات کے وقت) اس کا انتظار کرنے لگا کہ اسی اثناء میں وہ آگیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تجھ کو حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمتِ اقدس میں پیش کروں گا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو میں محتاج اور عیال دار ہوں اب نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر اس پر رحم آگیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ابو ہریرہ! (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تمہارا قیدی کیا ہوا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! اس کی گم یہ وزاری پر آج پھر مجھے رحم آگیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ پھر آگیا اور غلہ بھرنے شروع کر دیا۔ پس میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس تمہیں ضرور لے کر جاؤں گا

وہ بولا تم مجھے چھوڑ دو میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھاتا ہوں جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تجھے نفع دے گا وہ یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو آیتہ الکرسی پڑھ کر سویا کرو اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا، صبح تک یہ آیت تمہاری اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے نزدیک نہیں آسکے گا چنانچہ میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ! تمہارا قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جن سے اللہ تعالیٰ نفع دے گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو ہریرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ! اس نے آیتہ الکرسی پڑھ کر سونے والی بات سچ کہی۔ حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے کیا تم جانتے ہو کہ وہ تین رات تک متواتر آنے والا چور کون ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! میں نہیں جانتا حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔

(بخاری شریف، مشکوٰۃ شریف)




حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیتہ الکرسی پڑھے اس کو کوئی چیز جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی وہ مرتے ہی جنت میں

فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس دن آیتہ الکرسی نازل ہوئی تو ستر ہزار فرشتے اس کے ارد گرد تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا بیچے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بڑے اعزاز و اکرام سے اسے لیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ آیتہ الکرسی پڑھے گا ہر حرف کے بدلے ہزار ہزار برس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ ستر ہزار فرشتے جو کرسی کے گرد ہیں۔ آیتہ الکرسی کا ثواب اس کے نام لکھتے ہیں اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل کیا جاتا ہے



حضرت شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دن رات ایک ہزار مرتبہ آیتہ الکرسی چالیس یوم تک پڑھے گا۔ پروردگار کی قسم! اس آیت کا روحانی اثر اس کو دکھائی دے گا ملائکہ اس کی نیابت کو آئیں گے اور اس کے تمام مقاصد اور دلی مرادیں پوری ہوں گی۔



تفسیر اتقان میں ہے کہ ایک شخص تنہا سفر کر رہا تھا سامنے بھیڑ یا آگیا۔ اس شخص نے آیتہ الکرسی پڑھی تو بھیڑ یا دم دبا کر بھاگ گیا۔ آیتہ الکرسی کی برکت سے جنات اور شیاطین بھاگ

جاتے ہیں۔



حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جامع الحکایات میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ بغداد میں ایک درویش تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ دس چور اس کے گھر میں داخل ہوئے وہ درویش آیتہ الکرسی پڑھ کر کہیں گیا ہوا تھا وہ چور سب کے سب اندھے ہو گئے۔ جب وہ درویش اپنے گھر آیا تو ان لوگوں کو دیکھ کر پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ انھوں نے کہا کہ ہم چور ہیں، چوری کرنے آئے تھے آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے ہماری بینائی واپس آجائے ہم اس کام سے توبہ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے اسلام قبول کرتے ہیں وہ درویش مسکرائے اور کہا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنکھیں کھولو، سب کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ بینا ہو گئے۔ سب نے اسی وقت توبہ کی اور مسلمان ہو گئے۔



آیتہ الکرسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص آیتہ الکرسی پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخشے، اللہ تعالیٰ مشرق سے مغرب تک تمام مسلمان مردوں کی قبور کو انوار سے پھر کر دے گا۔ مومن مردوں کا درجہ بڑھے گا اور پڑھنے والے کے

نامہ اعمال میں بہت زیادہ ثواب لکھا جائے گا۔



آیتہ الکرسی کے ضمن میں علمائے کرام فرماتے ہیں کہ آیتہ الکرسی میں اسمِ اعظم موجود ہے چنانچہ امام جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اللہ لا الہ الا هو الحی القيوم اسمِ اعظم ہے۔  
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونہار شاگرد مشہور تابعی حضرت عبدالرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے جناب قاسم فرماتے ہیں کہ میں نے اسمِ اعظم کو تلاش کرنا چاہا تو الحی القيوم کو اسمِ اعظم پایا۔



## آیتہ الکرسی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا ہے

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ

نہ اونگھ آئے اور نہ نیند اسی کا ہے

مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ

وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے

إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ

حکم کے جانتا ہے جو کچھ ان کے آئے

## آیتہ الکرسی

سے

## مشکلات کا حل

ہر طرح کی مشکل مصیبت اور سختی دور کرنے کے لیے آیتہ الکرسی کے وسیلہ جمیلہ سے بارگاہِ الہی میں دعا مانگنے سے مطلوبہ مقصد میں جلد کامیابی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دعا کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ آیتہ الکرسی میں چونکہ اسم اعظم بھی ہے۔ اس لیے آیتہ الکرسی پڑھنے سے بے شمار مشکلات حل ہوتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی مصیبت اور سختی کے وقت آیتہ الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیات مبارکہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی فرمائے گا۔

مشکلات میں گھرے ہوئے اور پریشاں حال لوگوں کے لیے آیتہ الکرسی کو کتاب ہذا میں بتائے گئے طریقہ کے مطابق پڑھنے سے بفضل باری تعالیٰ مشکلات رفع ہوتی ہیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ بہت سی

أَيْدِيَهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا

ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے اور وہ

يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهَا

نہیں پاتے اس کے علم میں سے

إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ

مگر جتنا وہ چاہے اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَلَا

آسمان اور زمین اور اسے

يُؤَدُّهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ

بھاری نہیں ان کی نگہبانی اور وہی بے بند

الْعَظِيمُ ۝

بڑا ہی والا۔



بیماریوں میں اللہ تعالیٰ شفا کے لئے کاملہ سے نوازتا ہے۔ بکثرت آیتہ الکرسی کا ورد کرنے والے مرد و عورت پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرماتا ہے۔ کتاب ہذا آیتہ الکرسی کے اسرار و خواص کے حوالے سے ایک نادر خزینہ ہے۔ بارگاہِ الہی سے مشکلات کا حل کروانے کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔



## مفلسی دور ہو

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عملیات میں تحریر ہے کہ جو کوئی آیتہ الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے مفلسی کو دور فرما دے گا اور اس گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہ ہوگی۔ پروردگارِ عالم کشائشِ رزق فرمائے گا۔

## عہدہ میں ترقی

جو کوئی یہ چاہے کہ اس کے عہدہ میں ترقی ہو جائے یا اس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے تو جمعہ المبارک کے دن نمازِ عصر کی ادائیگی کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت جلد عہدہ میں ترقی ہوگی اور تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر بہت جلدی چاہتا ہے تو دوسرے جمعہ کو پھر اسی طرح پڑھے اور تیسرے جمعہ کے دن پھر پڑھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔ یہ عمل ایک بزرگ کا آزمودہ اور عطیہ ہے۔ اس عمل کی برکت سے بہت سے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اگر کامیابی نہ ہو تو پھر شرفِ قمر میں عمل شروع کیا جائے۔ بفضلِ باری تعالیٰ ضرور بالضرور کامیابی حاصل ہوگی۔



## کوئی نقصان نہ پہنچا سکے

جس کسی کو یہ خدشہ ہو کہ اسے کوئی نقصان پہنچائے گا تو اسے چاہیے کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگنے سے پہلے اپنے سجدہ کی جگہ پر دائیں ہاتھ کی پانچوں انگلیوں کو زمین پر رگڑے اور پھر ایک بار آیتہ الکرسی پڑھ کر پھونک دے اور ہلکی سی تالی بجائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا اور نہ ہی کسی کی طرف سے کوئی برائی دیکھنے کو ملے گی۔

## چور کے بارے میں معلوم کرنا

اگر کسی کی چوری ہوگئی ہو اور چور کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہوتا ہو تو چاہیے کہ ایک خالی مشک لے کر با وضو حالت میں اس پر آیتہ الکرسی لکھے اور سات انبیاء کرام علیہم السلام کے نام نوح، لوط، صالح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین لکھے۔ اس کے بعد الگ الگ ایک ایک نام کے ساتھ ایک ایک مرتبہ زبانی آیتہ الکرسی پڑھ کر مشک میں پھونک دے اور ہر مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا أَرْسَلْتَ هَذَا أَنْ تَتَفَحَّ  
بَطْنِ هَذَا السَّارِقِ كَمَا نَفَحْتَ هَذَا لِقَرَّتْ

پھر جب سات مرتبہ آیتہ الکرسی اور یہ دعا پڑھ کر پھونکیں مائیں تو مشک کا منہ باندھ کر دیوار کے ساتھ لٹکا دے۔ انشاء اللہ تعالیٰ چور کا پیٹ بہت زیادہ

پھول جائے گا اور وہ اس قدر پریشان ہوگا کہ چہرہ یا ہوا مال لے کر واپس آ جائے گا اس مقصد کے لیے یہ نہایت آزمودہ اور مجرب عمل ہے۔

## بلغم دور ہو

جس کسی کو کثرت سے بلغم آتی ہو اور بلغم کا شدید غلبہ ہو تو اس مقصد کے لیے نمک کی سات ڈلیاں لے کر ہر ایک ڈلی پر سات سات مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر دم کرے اور مریض کو دے۔ مریض ان میں سے ایک ایک ڈلی روزانہ سات یوم تک چوستا رہے۔ بفضل باری تعالیٰ اس عمل کی برکت سے مریض کو صحت حاصل ہوگی اور آرام آجائے گا۔

## تسخیر خلائق کے لیے

لوگوں کے دلوں کو مسخر کرنے کی غرض سے چاند کے مہینہ کی پسی جمعات سے اس طرح عمل شروع کرے کہ نماز مغرب کی فرض اور سنت نماز ادا کرنے کے بعد اکتالیس مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے۔ اس کے بعد نفل نماز پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ ہر روز بلاناغہ چالیس یوم تک اسی طرح ہی کرے انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد لوگوں کے دلوں میں عامل کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ دنیا مسخر ہو جائے گی۔ جہاں بھی جائے گا ہر کوئی محبت و اخلاق سے پیش آئے گا۔

## خواب میں پریشانی

اگر کسی کو پریشان کن خواب آتے ہوں سوتے ہی ڈر جاتا ہو تو جب سونے کے لیے بستر پر لیٹے تو با وضو حالت میں لیٹے اور تین بار

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

پڑھ کر تین مرتبہ آیتہ الکرسی اس طرح سے پڑھے کہ ہر بار جب

وَلَا يُوَدُّكَ حَفِظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

پر پہنچے تو تین بار نکرار کرے اور پھر اپنے اوپر دم کر کے دامنہ کر وٹ ہو کر قبلہ رخ چہرہ کر کے سو جائے انشاء اللہ تعالیٰ پریشان کن خواب نہیں آئیں گے اور وہ سکون کی نیند سوئے گا۔

## اولاد کی پیدائش

اگر کسی کے ماں اولاد نہ ہوتی ہو عورت با بچہ ہو تو چاہے میہ کہ منگل کے دن نماز اشراق کے وقت دس رکعت نقل نماز دو دو رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے ہر دو رکعت پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اولاد کے حصول کی دعا مانگے۔ بقضیل باری تعالیٰ اولاد کی نعمت ضرور حاصل ہوگی۔

❖ ❖ ❖

## والدین کی خوشنودی کیلئے

اگر کسی کی والدہ یا والد یا دونوں ہی انتقال کر چکے ہوں تو ان کی روح کو ایصالِ ثواب پہنچانے کے لیے دو رکعت نماز نفل اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے۔ نماز پڑھنے سے پہلے اپنے مقصد کی نیت ضرور کرے پھر جب دو رکعت نماز پڑھ لے تو نہایت توجہ اور اخلاص کے ساتھ بارگاہِ الہی میں یہ دعا مانگے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي صَلَّيْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ قَدْ جَعَلْتُ ثَوَابَهَا لِوَالِدَتِي يَا عَلِيمُ يَا قَدِيرُ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَتِي وَ

أُمَّنْهَمَا مِنِّي إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اس کے بعد والدین کی بخشش کے لیے دعا مانگے۔ انشاء اللہ تعالیٰ یہ دعا بارگاہِ الہی میں قبولیت کا شرف حاصل کرے گی۔ اس نماز کے طفیل اللہ تعالیٰ ان کے ہزار گناہ معاف فرمادیتا ہے۔ ان کے نامہ اعمال میں ہزار نیکیوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور ان کو اپنی رحمت کے سایہ میں جگہ عطا فرماتا ہے ماس نماز کی اس قدر فضیلت ہے کہ یہ ہر مسلمان مرد و عورت کو اپنے والدین کیلئے پڑھنی چاہیے ماس سے پڑھنے والے کو بھی بہت زیادہ ثواب عطا ہوتا ہے۔

## مکرور کے لیے

اگر کسی کے سر میں درد کی شکایت ہو تو دوسرا شخص با وضو حالت میں تین مرتبہ

آیتہ الکرسی پڑھ کر دم کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ سرورِ دفع ہو جائے گا اور  
فوری طور پر افاقہ ہوگا۔

## گھر میں کبھی چوری نہ ہو

جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کا گھر چوروں اور ڈاکوؤں سے محفوظ رہے  
گھر میں کبھی چور داخل نہ ہو سکیں تو اس مقصد کے لیے رات کو سونے سے  
پہلے ہر روز بلا ناغہ تین مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر تین مرتبہ زور سے تالی بجا کر  
اپنی انگشت شہادت اٹھا کر مکان کے چاروں اطراف گھمائے اور یہ کہے کہ  
یا اللہ رات بھر کے لیے میرا گھر محفوظ رہے۔ اگر انگلی گھماتے ہوئے صرف  
اپنے دل میں یہ خیال کرے کہ میں نے اپنے مکان کا محاصرہ کر لیا ہے تو تب بھی  
مقصد پورا ہوگا۔ اسی طرح ہر روز کرے انشاء اللہ تعالیٰ اس کا گھر چوروں  
کی دستبرد سے محفوظ ہو جائے گا اگر اتفاق سے کہیں سفر پر گیا ہو اور رات  
کو جس جگہ پر قیام کرے وہیں تین مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر یہ عمل کرے اور  
اپنے دل میں خیال کرے کہ میں نے اپنے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ چاہے گھر  
سے جس قدر بھی فاصلے پر ہوگا۔ آیتہ الکرسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے  
گھر کو چوروں سے محفوظ رکھے گا۔ اس عمل سے جس بھی چیز کی حفاظت کرنا  
مقصود ہو اس کا حصار اس طرح کر کے اس شے کو محفوظ کر سکتا ہے  
نہایت مجرب و آزمودہ عمل ہے۔

❖ ❖ ❖

## سانپ سے حفاظت

جس گھر میں سانپ موجود ہوں اور ہر وقت جانی نقصان کا خطرہ لگا رہتا ہو  
تو چنانچہ سانپ کو گھر سے بھگانے کی غرض سے دریا کی ریت لے کر اس  
پر بار و ضرو ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھے تین مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے اور  
ایک مرتبہ چاروں قبل پڑھ کر سات مرتبہ یہ پڑھے

سَلَامٌ عَلٰی نُوْحٍ فِي الْعَالَمِيْنَ

پھر اپنے گھر کے تین کونوں میں تھوڑی تھوڑی ریت ڈال دے اور  
گھر کا چوتھا کونہ سانپ کے فرار ہونے کے لیے کھلا رہنے دے انشاء اللہ  
تعالیٰ اس راستے سے سانپ خود بخود فرار ہو جائے گا۔ اس عمل کی برکت  
سے گھر میں سانپوں کا داخلہ بند ہو جائے گا اور کوئی بھی گھر میں رہ نہیں  
سکے گا۔

## دولت مند ہو جانا

جو مفلس و غریب آدمی یہ چاہے کہ اس کی غربت دور ہو جائے اور وہ  
دولت مند ہو جائے تو وہ ہر نماز کے بعد کثرت سے آیتہ الکرسی پڑھنے پر  
مداومت کرے چالیس یوم تک بلا ناغہ اسی طرح کرے انشاء اللہ تعالیٰ  
اس دوران ضرور فائدہ ہوگا اور جب یہ محسوس ہو کہ مالی فائدہ ہو رہا ہے اور  
حسبِ توقع ہو رہا ہے تو پھر ہر روز بلا ناغہ ایک سو مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھنے کا

معمول بنالے اور پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رزقِ حلال میں زیادتی و برکت کی دعا مانگے انشاء اللہ تعالیٰ مفلسی و غربت جاتی رہے گی۔

## لوگوں کے شر سے محفوظ رہے

اگر کسی کو اپنے دشمن کی طرف سے نقصان پہنچائے جانے کا شدید خطرہ ہو اور دشمن کسی بھی طرح نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہو یا کوئی دھوکہ دہی سے جانی نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہو یا ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو گئی ہو کہ محلہ والے کسی غلط فہمی کی وجہ سے اس کے دشمن ہو گئے ہوں محلہ میں کوئی بھی اس کا حامی و مددگار نہ ہو اور محلہ داروں نے آپس میں اکٹھا ہو کر اس بات کا مشورہ کر لیا ہو کہ اس کو اس محلہ سے زبردستی نکال باہر کریں گے یا رات سوتے ہوئے گھر میں گھس کر ماریں گے تو ان تمام حالات میں یہ عمل کرے کہ با وضو حالت میں قبلہ رخ بیٹھ کر ایک سو مرتبہ آیتہ الکرسی اس طرح سے پڑھے کہ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے بعد ایک سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رُوف پڑھے پھر ایک سو مرتبہ یہ پڑھے

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَيَّ اِبْرَاهِيمَ

اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا مانگے اور پھر تین مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرے اور تالی بجا کر آیتہ الکرسی پڑھتا ہو قبلہ رخ چہرہ کر کے سو جائے سات یوم تک

بلاناغہ یہ عمل کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ کوئی بھی دشمن کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔

## مرضِ سودا کے لیے

اگر کسی کو سودا کا غارضہ لاحق ہو گیا ہو تو سات مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر روغن زیتون پر دم کرے اور مریض کے سر پر مالش کرے۔ اس کے علاوہ نمازِ فجر اور نمازِ عشاء کے بعد با وضو حالت میں سات سات مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر پانی پر دم کرے اور مریض کو صبح شام یہ دم کیا ہو اپانی پلاکے۔ بفضلِ باری تعالیٰ آیتہ الکرسی کی برکت سے مرض میں بہت جلد افاقہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ شفا کے کامل نصیب فرمائے گا۔

## قصائے حاجت کے لیے

کسی بھی جائزہ حاجت کے لیے بارہ رکعت نفل نماز دو دو رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے۔ اس کے بعد سجدے میں جا کر سات مرتبہ سورہ فاتحہ، دس مرتبہ آیتہ الکرسی اور دس بار کلمہ توحید پڑھے اور پھر اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اس کے بعد یہ کہے۔

اللَّهُمَّ اقْضِ حَاجَتِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا قَاضِيَ  
الْحَاجَاتِ دَيَا مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ

پھر دس مرتبہ یا ہادی پڑھے اس کے بعد دس مرتبہ یا قاضی  
المحاجات کہے۔ سات یوم تک بلا ناغہ یہ عمل کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ  
اس دوران ضرور حاجت روائی ہوگی۔

## منظر بد کے لیے

اگر کوئی نظر بد کی وجہ سے بیمار ہو گیا ہو تو نظر بد اتارنے کے لیے  
ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور سات مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے پھر چاروں قل پڑھے  
کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے:-

اللّٰهُمَّ صَدِّدْ جِي مِنْ عِنْدِكَ مَدَدِي بِسْمِ اللّٰهِ  
الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا  
فِي السَّمَاوَاتِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اس کے بعد تین مرتبہ کلمہ توحید پڑھے اور پھر سات مرتبہ آیتہ الکرسی  
پڑھ کر سات بار درود پاک پڑھے اور ایک پھری لے کر بیمار کے سر سے  
لے کر پاؤں تک نظر اتارے۔ اس پھری سے بیمار کے گھر کی چوکھٹ کے  
پاس سے دو گہری لکیریں کھینچ کر مٹی سے چھوٹی سی ڈھیری بنائے اور اس  
پر ایک اینٹ رکھ دے۔ اس عمل کی برکت سے انشاء اللہ تعالیٰ بیمار  
صحت یاب ہو جائے گا۔

❖ ❖ ❖

## جن کو حاضر کرنا

جو کوئی کسی جن کو حاضر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس مقصد کے لیے  
پہلے یہ حصار کرے تاکہ کسی قسم کا نقصان نہ ہو سکے۔ با وضو حالت میں تین  
مرتبہ سورہ فاتحہ اور سات مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے پھر تین بار سورہ اخلاص  
پڑھے۔ اس کے بعد تین مرتبہ

فَلْيَكْبُؤْا فِيهَا صُورًا وَالْغَاوُونَ وَجَنُودِ ابْلِيسَ اجْمَعُونَ

پڑھے پھر تین سو مرتبہ یہ پڑھے

بِسْمِ اللّٰهِ بِكَيْتَمَانَ الرَّحْمٰنِ يَصْنٰمِ الرَّحْمٰنِ حَيْثُ  
مَثَمَانَ -

اس کے بعد پانچ مرتبہ پھر آیتہ الکرسی پڑھے اور یہ حصار پڑھنا شروع کرے  
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ -

حصار میکنم و قفل میکنم از مشرق تا مغرب و از مغرب یا مشرق  
و از جنوب تا شمال و از شمال تا جنوب و از مہفت طبق آسمان  
مہفت طبق زیر و بالا لے کرۃ ارض و از عرش تا کرسی تا عرش  
و از لوح تا قلم و از قلم تا لوح و از بہشت تا دوزخ و از حورتا  
غلمان و از علمان تا حور و از ملائکہ تا روحانیاں و از روحانیاں  
تا ملائکہ و از انس تا جن و از جن تا انس و از مارتا کثر دم و از  
کثر دم تا مارتا و از وحوش تا طیور و از طیور تا دوحوش و از خاک تا آب

واذ آب تا خاک و از کمره باد تا آتش تا باد و از ناستاره تا  
دوازده بروج تا ناستاره از امراء تا وزراء و از وزراء تا  
امراء و از اول العزم تا اول الامر و از اول الامر تا اول العزم و از  
دو پایہ تا ہشتاد و چہار پایہ و از ہشتاد و چہار پایہ تا دو پایہ  
و از چہار پایہ تا کشتش پایہ و از کشتش پایہ تا چہار پایہ و از جملہ  
اقامت ہفت طبق زمین تا بہ فلک خداوند احصار میکنم تا کہ  
ایں بندہ لو کبشا ید کشاہ نہ گردد۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ  
رَسُولُ اللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
گرد ما و کساں و حوالینا و حسانا محمد رسول اللہ خفانا و مسمارنا۔

اس طرح حصار کرنے کے بعد آسیب کو حاضر کرے انشاء اللہ تعالیٰ  
ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہے گا۔

## ملازمت کے لیے

اگر کوئی ملازمت کے لیے کوشاں ہو اور حسبِ منشاء ملازمت چاہتا  
ہو تو چاہیے کہ سات یوم میں ایک مرتبہ یہ عمل کرے کہ با وضو حالت میں قبلہ  
رخ ہو کہ بیٹھے۔ سب سے پہلے اکیس مرتبہ درود پاک پڑھے پھر تین ہزار ایک مرتبہ  
يَا كَافِي يَا غَنِي يَا فَتَّاحُ يَا رِزَّاقُ

پڑھے اس کے بعد ایک سو تر مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا  
مانگے۔ ہفتہ میں ایک دن یہ عمل کرے۔ بفضلِ باری تعالیٰ بہت جلد

ملازمت حاصل ہوگی۔ بیروزگاری ختم ہو جائے گی اور حسبِ منشاء جگہ  
پر ملازمت مل جائے گی۔

## قید سے رہائی

جس کسی کو بے گناہ قید میں ڈال دیا گیا ہو اور رہائی کی کوئی صورت ممکن  
دکھائی نہ دیتی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ با وضو حالت میں کثرت سے بلا تعداد  
آیتہ الکرسی پڑھنے کا معمول بنالے۔ انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد قید سے  
باعزت رہائی عمل میں آجائے گی۔ آیتہ الکرسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ رہائی  
کی سبیل پیدا فرمادے گا۔

## آسیب سے نجات

اگر کسی کو آسیب تنگ کرتا ہو تو با وضو حالت میں تین مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ  
کر روغنِ بادام یا سرسوں کے تیل پر دم کرے اور اس تیل کے دو قطرے  
کان میں پٹکا دے بفضلِ باری تعالیٰ آسیب سے فوری طور پر نجات حاصل  
ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اکیس مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر آسیب زدہ کے  
کان میں چھونکے۔ انشاء اللہ تعالیٰ آسیب تنگ نہیں کرے گا اور چھوڑ کر  
چلا جائے گا۔

## دشمن کو مصیبت میں ڈالنا

ایسا دشمن جو ہر وقت تنگ کرنے کے درپے رہتا ہو اور کسی طرح باز نہ آتا ہو تو اس کو مصیبت و پریشانی میں ڈالنے کی غرض سے رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کرے کہ با وضو حالت میں پہلے دو سو مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے۔ پھر آیتہ الکرسی میں موجود اسمائے حسنة یا اللہ یا احمی یا قیوم یا علی یا عظیم کو ایک ایک سو مرتبہ اس طرح سے پڑھے کہ ہر سو مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک ہزار تین سو مرتبہ بار بار پڑھے۔ پھر یہ پڑھے :-

اسْتَلْكَ بِنُورِي عَرَشِيكَ وَبِرُوحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تُرْسِلَ خَا مَ هَذِهِ  
الذِيَةَ الشَّرِيفَةَ اِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فِي صِفَتِي وَحِيلَتِي  
يَسْتَهَبُّ مِنْهُ هُوَ وَحَرٌّ مِنْ نَاسٍ

اس کے بعد کسی چھری یا ہتھیار سے اس طرف اشارہ کرے جو دشمن ہے اس عمل کی بدولت دشمن کو نقصان پہنچے گا اور وہ کسی مصیبت میں ضرور گرفتار ہو جائے گا۔ اس عمل کو جمعہ کی شب کرے اگر مطلوبہ مقصد میں کامیابی نہ ہو تو پھر سات جمعہ تک کرے انشاء اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی ہوگی عمل کرنے کے بعد درود پاک پڑھے اور دعائے مبارک کہ قبلہ رخ چہرہ کر کے سو جائے۔



## مرگی کا دورہ

جس کسی کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو اس پر گیارہ مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر دم کیا جائے تو مرگی کے دورہ سے اسے ہوش آ جائے گا، اس کے علاوہ صبح و شام پانی پر گیارہ مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر دم کرے اور مریض کو روزانہ پلائے۔ بفضل باری تعالیٰ اس عمل کی برکت سے مرگی کا عارضہ بہت جلد رفع ہو جائے گا۔

## حاجت روائی کے لیے

ایسی حاجت جو پوری نہ ہوتی ہو تو نماز تہجد کے وقت اٹھ کر ایسی جگہ با وضو حالت میں بیٹھے کہ جہاں پر کسی کی کوئی مداخلت نہ ہو اور نہ ہی کوئی آواز دہاں پر آتی ہو۔ آیتہ الکرسی کو اس کے حروف کی تعداد کے مطابق پڑھے اور پھر اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے سات یوم تک بلاناغہ یہ عمل کرے انشاء اللہ تعالیٰ جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔

## درد شقیقہ کے لیے

اگر کسی کو درد شقیقہ کی شکایت لاحق ہو جائے تو سات مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر دم کرے اس کے علاوہ آیتہ الکرسی کی ابتداء میں موجود اسم حسنة اللہ کا اکلے صفحہ پر دیا ہوا نقش مبارک با وضو حالت میں لکھ کر جس جانب

درد ہو، اس کے دوسری طرف باندھ دے۔ انشاء اللہ تعالیٰ فوری طور پر درد دور ہو جائے گا۔ نقش یہ ہے :-

۷۴۶

اللہ	اللہ	اللہ
اللہ	اللہ	اللہ
اللہ	اللہ	اللہ

## آفات و بلیات سے حفاظت

کچھ لوگ اکٹھے مل کر کسی ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں کسی آفت سے نقصان پہنچنے کا شدید خطرہ ہو یا گھر کے افراد گھر میں بیٹھے ہوں اور کوئی زلزلہ یا آفت نازل ہو جائے تو محفوظ و سلامت رہنے کی غرض سے سب لوگ زمین پر اس طرح سے بیٹھ جائیں کہ ایک دوسرے کی کمر کے ساتھ کمر لگا رکھی ہو اور اپنے گرد ایک حصار کھینچ لیا جائے۔ پھر ان میں سے ایک شخص سات مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے۔ اس کے بعد تین مرتبہ یا حَفِظُا کھے پھر یہ کہے

يَا حَافِظُ احْفَظْنَا اللَّهُمَّ اَسْرَحْنَا بِعَيْنِكَ الَّتِي  
لَا يَزَالُ وَاَبْقَيْنَا بِكَفِكَ الَّذِي لَا يَرَامُ يَا اللَّهُ  
يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ

اس دوران دوسرے لوگ چپکے سے بیٹھے رہیں اور خاموشی اختیار کیے جائے رکھیں۔ بفضل باری تعالیٰ تمام آفات و بلیات سے خلاصی مل جائے گی

اور جان سلامت رہے گی۔

## پیٹ درد کے لیے

پیٹ میں درد ہونے کی صورت میں با وضو حالت میں سات مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر پانی پر یا کسی مشروب پر دم کر کے مریض کو پلانے سے پیٹ درد میں فوری طور پر افاقہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ شفا ٹے کا ملہ نصیب فرماتا ہے۔

## مستجاب الدعوات ہونا

جو کوئی یہ چاہے کہ وہ جو بھی دعائے بارگاہ الہی میں قبولیت کا شرف حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ تمام غیر شرعی حرکات کو چھوڑ کر نماز پنجگانہ باجماعت پڑھا کرے اور جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد سترہ مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھنے پر مداومت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعائے مانگے گا، بفضل باری تعالیٰ قبول ہوگی۔

## حج کا ثواب حاصل کرنا

حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عرفہ ذی الحجہ کو دو رکعت نقل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک ایک سو مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے تو اللہ تعالیٰ احکم فرمائے گا

کہ ہزار حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیا جائے۔ حضرت بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اجیر شریف میں تھا کئی دنوں تک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پر متکف رہا یہ سعادت مجھے وہاں پر حاصل ہوئی کہ عرفہ کی شب میں نے مزار مبارک کے نزدیک دو رکعت نفل نماز پڑھی۔ اس کے بعد میں قرآن مجید پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ رات کا ایک حصہ گزارا تھا کہ میں نے نصف قرآن پاک پڑھ لیا۔ میں ایک سورۃ پڑھ رہا تھا کہ مجھ سے کوئی حرف نہ کہہ گیا۔ مزار مبارک سے آواز آئی کہ وہ حرف رہ گیا ہے پھر پڑھ۔ میں نے دوبارہ اعادہ کیا پھر آواز آئی کہ خوب پڑھا۔ جب میں فارغ ہوا تو مزار مبارک کے پائیں طرف اپنا سر رکھ دیا اور رونے لگا۔ آواز آئی مولانا! جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے وہ حقیقت میں بخشے ہوئے لوگوں میں سے ہے۔ جب سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے تو میرے قلب کے اطمینان ہوا۔

## اسہال کے لیے

اگر کسی کو اسہال کا عارضہ لاحق ہو گیا ہو تو فوری طور پر تین مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر پانی پر دم کرے اور سارا دن مریض پر دم کیا ہوا پانی استعمال کرے تین دن تک بلا ناغہ یہ عمل کرے۔ اس کے علاوہ ہر روز تین دن تک با وضو حالت میں ایک سفید کاغذ پر آیتہ الکرسی کے یہ کلمات

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ مَعَ لِسْتِجِ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کے لکھ کر پیٹ پر باندھ دے۔ انشاء اللہ تعالیٰ مرض میں فوری طور پر افاقہ ہوگا اور شفا کے کامل نصیب ہوگی۔ مرض میں آرام آجائے گا۔

## مالِ باپ کی بخشش

جو کوئی یہ چاہے کہ اس کے انتقال شدہ والدین کی بخشش و مغفرت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کاملہ کے صدقے بخش دے تو وہ ہر جمعرات کی شب نماز مغرب کے بعد یا نماز عشاء کی فرض نماز سے قبل دو رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پانچ مرتبہ آیتہ الکرسی اور پانچ مرتبہ معوذتین پڑھے پھر جب نماز ادا کرے تو نہایت توجہ اور کیسوٹی کے ساتھ پندرہ مرتبہ استغفر اللہ اور پندرہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب والدین کو بخش دے انشاء اللہ تعالیٰ والدین کو بہت فائدہ ہوگا۔

## عذابِ قبر سے نجات

روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مومن آیتہ الکرسی پڑھتا ہے اور اس کا ثواب اہل قبور کے لیے پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب سے چالیس نور ہر میت کی قبر میں داخل فرماتا ہے اور ان کی قبروں کو وسیع فرمادیتا ہے اور ان کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کے پڑھنے والے کو ساٹھ انبیاء کرام کا ثواب ملتا ہے اور

ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے کہ قیامت تک اس کے لیے تسبیح کرتا ہے اور مغفرت طلب کرتا ہے۔

## افسر سختی نہ کرے

اگر کسی کا افسر نہایت سخت ہے اور کام کے معاملے میں سختی سے پیش آتا ہے۔ معمولی سی غلطی اور کوتاہی بھی برداشت نہیں کرتا اور دفتر کا معائنہ کرنا چاہتا ہے تو با وضو حالت میں تین مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر تالی بجائے اور چاروں طرف اپنے دفتر کا حصار کرے اور دل میں یہ تصور کرے کہ فلاں افسر چھ ماہ یا ایک برس تک معائنہ نہ کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ افسر ہرگز معائنہ نہ کر سکے گا اور اگر کبھی اتفاق سے افسر آ بھی جائے اور معائنہ کر بھی لے تو کسی بھی غلطی پر گرفت نہ کر سکے گا اور نہ ہی سختی سے پیش آئے گا۔ مطلوبہ مقصد میں بفضل باری تعالیٰ ضرور کامیابی ہوتی ہے۔

## محبت و تسخیر کے لیے

جو کوئی محبت و تسخیر کی غرض سے کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ہر فرض نماز کے بعد آیتہ الکرسی اس طرح سے پڑھے کہ دس وقت پر اپنے دونوں ہاتھوں کی دس انگلیاں بند کرے۔ یعنی ہر وقف پر اپنی ایک ایک انگلی بند کرتا جائے۔ اس کا آغاز اپنے دائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے کرے اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر ختم کرے۔ اس کے بعد تین مرتبہ

سورہ الم نشرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھے پھر تین مرتبہ تسبیح کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھے۔ تین مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ آیتہ الکرسی پڑھتے ہوئے جب مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَسْمَعُ تَوَجُّهًا وَخَشَعًا فِي مَقَامِ الْحُكْمِ اور جب يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَكْتُمُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ يُرِيبُ عَيْنًا يَكْتُمُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ يُرِيبُ عَيْنًا يَكْتُمُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ لائے۔ یہ عمل کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں آسمان کی طرف کر کے انگلیاں کھول لے اور اپنے جسم پر ہاتھوں کو بھیرے۔ بفضل باری تعالیٰ جو بھی نیک مقصد ہو گا اس میں ضرور جلد ہی کامیابی ہوگی۔

## فراخی رزق کے لیے

رزق حلال میں زیادتی کے لیے نماز جمعہ کے بعد تین مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے اس کے بعد ایک سو ایک مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھے پھر تین مرتبہ کہے

اللَّهُمَّ يَا غَنِيُّ يَا سَيِّدِي يَا سَعِيدِي يَا رَحِيمِي يَا  
وَدُودِي أَعْنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِفَضْلِكَ  
عَنْ مَنِّ سِوَاكَ

اس وظیفہ کی مداومت کرنے پر انشاء اللہ تعالیٰ رزق حلال میں خوب زیادتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ غیب سے کشائش رزق فرمائے گا۔

## ٹڈیوں کا خاتمہ

اگر کسی کھیت پر ٹڈیوں کا حملہ ہو گیا ہو یا کسی جگہ پر بہت زیادہ حشرات الارض آگئے ہوں اور ان کی وجہ سے فصل کے نقصان کا شدید خطرہ ہو تو چاہیے کہ ٹڈیوں میں سے ایک زرہ اور ایک سرخ رنگ کی ٹڈی پکڑے اور ہر ایک پر سات سات مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھنے کے بعد یہ کہے۔

يَا أَيُّهَا الْبَحْرُ اذْنَهُ اذْنَهُ اذْتَجَلَّ بِأَصْحَابِكَ  
مِنْ هَذَا الْمَكَانِ بِحَقِّ مَا تَكُونُ عَلَيْهِ مِنْ  
الْقُرْآنِ يَا أَيُّهَا الْبَحْرُ اذْنَهُ اذْتَجَلَّ بِأَصْحَابِكَ  
مِنْ هَذَا الْمَكَانِ وَالْأَفْعَدُ مَهَلَّتْ ذَنْبِكَ مِنْ جَمْعِ  
بَيْنِ امْرَأَةٍ وَزَيْنَتِهَا فَأَفْعَدْ وَالْأَفْعَزُونَ  
الْأَبْسُلَطَانِ ط

اس عمل کی بدولت انشاء اللہ تعالیٰ اس کھیت، گھر، مکان و مقام سے ٹڈیاں اور دیگر حشرات الارض کا خاتمہ ہو جائے گا اور ٹڈیاں وہاں پر پھر نہ آئیں گی۔

## صفاوی امراض کے لیے

صفاوی امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے با وضو حالت میں چینی کی بڑی پلیٹ پر تین مرتبہ آیتہ الکرسی لکھے اور تازہ پانی سے دھو کر مریض کو دن میں

کئی مرتبہ یہ پانی پلائے۔ بفضل باری تعالیٰ مرض میں بہت جلد افاقہ ہوگا، صفا کی زیادتی ختم ہو جائے گی۔ اکیس یوم تک بلاناغہ عرق گلاب اور زعفران سے لکھ کر پلانے سے انشاء اللہ تعالیٰ بیماری جاتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ نصیب فرمائے گا۔

## لوگوں کو مطیع کرنا

آیتہ الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنة "اللہ" اور "ہو" کا ذکر آیا ہے۔ علمائے کرام اور اہل تحقیق نے ان اسمائے حسنة کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ "ہو" اسم ذات باری تعالیٰ ہے اور اللہ پروردگار عالم کا ذاتی اسم مبارک ہے۔ چنانچہ جو کوئی با وضو حالت میں قبلہ رخ بیٹھ کر ایک ہی مجلس میں نہایت توجہ و یکسوئی کے ساتھ یا اللہ یا ہو بارہ ہزار مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی جائز حاجت طلب کرے گا، انشاء اللہ تعالیٰ بارگاہ الہی میں پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دعا کو قبولیت کا شرف بخشنے گا۔ جہاں بھی جائے گا اس عمل کی مداومت کرنے اور ہر روز پڑھنے سے اس وظیفہ کی برکت سے جملہ مخلوقات مطیع و سخر ہوں گے۔ ہر کوئی عزت و احترام سے پیش آئے گا۔ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے اسمائے حسنة کے طفیل بہت سے مخفی علوم اس پر منکشف فرمائے گا اور اپنی بارگاہ میں بلند مرتبہ سے نوازے گا۔

## اولاد کا حصول

جو کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہو اور اولاد کی شدید خواہش ہو تو کچھ سوت کے اکتالیس تار عورت کے قد کے برابر تاپ لے۔ اس کے بعد تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سوت پر دم کرے۔ پھر تین بار درود پاک پڑھے اور دم کرے۔ اس کے بعد گیارہ مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر دم کرے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ رحمن کی اس طرح سے تلاوت کرے کہ جب جِئَاتِي الْاَعْدَاءُ رَبِّكُمَا نَكَّدِ بْنِ پُر سِنَجِي تُو دَم كَرِي كَرِه لَكَا تِي پھر حسب منشاء شیرینی منگو کر اس پر ختم دلائے، جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں تحفۃ ہدیہ پیش کرے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچائے۔ شیرینی فقراء و مساکین میں تقسیم کر دے اور عورت جب حیض سے فارغ ہونے کے بعد غسل کرے تو دم کیا ہو ادھاگہ عورت کی کمرے باندھ دے۔ بفضیل باری تعالیٰ عورت ضرور اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوگی۔

## قوتِ حافظہ کے لیے

اگر کسی کی یادداشت نہایت ہی کمزور ہو کوئی بھی بات زیادہ دیر تک یاد نہ رہتی ہو تو چاہیے کہ چینی کی پلٹ پر با وضو حالت میں آیتہ الکرسی لکھے

اور تازہ پانی سے دھو کر صبح نہار منہ پی لیا کرے۔ چالیس یوم تک بلا ناغہ اسی طرح کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ قوتِ حافظہ مضبوط ہوگی اور یادداشت خوب بہتر ہو جائے گی۔

## خیر و برکت کے لیے

ہر اچھے کام میں خیر و برکت اور بہتر نتائج کے حصول کی غرض سے کام کا آغاز کرنے سے پیشتر تین سو تیرہ مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ انشاء اللہ تعالیٰ جس بھی کام کو کرنے کا ارادہ کرے گا اس میں کامیابی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کام میں خیر و برکت پیدا فرمائے گا۔

## مشکل کے لیے

اگر کسی کو کوئی ایسی مشکل پیش آگئی ہو جس کے حل کی کوئی صورت دکھائی نہ دیتی ہو تو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد ایک سو مرتبہ

هُوَ الْحَيُّ الْعَظِيمُ

اور ایک سو مرتبہ

هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

پڑھے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھے پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکل کے حل کے لیے دعا مانگے۔ اکیس یوم تک بلا ناغہ یہ عمل کرے انشاء اللہ تعالیٰ جو بھی مشکل ہوگی اس عرصہ میں آسان ہو جائے گی۔

## ماسخورہ کے لیے

جو کوئی مسوڑھوں کے مرض ماسخورہ میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر اپنی انگشت شہادت پر دم کرے اور اپنے مسوڑھوں پر انگلی پھیرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ چند دنوں میں افاقہ ہوگا اور مرض دور ہو جائے گا۔

## سانپ بچھو سے بچاؤ

اگر کوئی کسی ایسی جگہ پر رہائش پذیر ہو کہ جہاں پر اسے سانپ اور بچھو سے نقصان پہنچنے کا ڈر رہتا ہو یا کسی دشمن کی طرف سے نقصان پہنچائے جانے کا خدشہ لگا رہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر روز نمازِ عشاء کے بعد سات مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر تالی بچائے اور اپنے گھر کے ارد گرد حصار کرے انشاء اللہ تعالیٰ ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہے گا۔ سانپ اور بچھو اس حصار کے اندر داخل نہ ہو سکیں گے اور نہ ہی کوئی دشمن یا چور داخل ہونے کی ہجرات کر سکے گا۔

## غلہ محفوظ رہے

موسمی اثرات یا کیڑوں کے حملے کے باعث غلہ خراب ہونے کا خدشہ ہو تو ایک کورے ٹھیکرے پر یا وضو حالت میں عرق گلاب اور زعفران آیتہ الکرسی لکھے

اور غلہ کے ڈھیر کے اندر رکھ دے۔ انشاء اللہ تعالیٰ غلہ کیڑے لگنے اور خراب ہونے سے محفوظ رہے گا اور غلہ کا کسی قسم کا بھی نقصان نہ ہوگا۔

## حسبِ نِشَاءِ مِلَازِمَت

وہ تعلیم یافتہ مرد و عورت جو اپنی تعلیمی قابلیت کے شایانِ شانِ حسبِ نِشَاءِ عمدہ چاہتے ہوں ان کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد سات مرتبہ آیتہ الکرسی اس طرح سے پڑھنے پر مداومت کریں کہ اول و آخر سات سات بار درودِ پاک پڑھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے حصول کی دعا مانگیں۔ اس کے علاوہ آیتہ الکرسی میں موجود اسمائے حسنہ العلیٰ العظیم چاندی کی انگوٹھی پر شرفِ آفتاب میں کندہ کر کے اپنے دامنے ہاتھ کی انگلی میں پہنیں اور بکثرت ان اسمائے حسنہ کا ورد بھی رکھیں تو انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کے حسبِ نِشَاءِ مِلَازِمَت ان کو مل جائے گی۔

## حُب کے لیے

جو کوئی کسی کو اپنی محبت میں مبتلا کرنا چاہے عورت اپنے خاوند کو اپنی محبت میں فریفتہ کرنا چاہتی ہو یا خاوند اپنی بیوی کو اپنا مطیع کرنا چاہتا ہو تو چاہیے کہ با وضو حالت میں ایک سفید کاغذ پر پانچ سو مرتبہ اللہ اکبر لکھے دس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے جبکہ ایک ایک بار آیتہ الکرسی، سورۃ اِخْلَاص اور معوذتین لکھے۔ اس کے بعد یہ لکھے

اللَّهُمَّ اعْطِفْ قَلْبَ فُلَانِ ابْنِ فُلَانَةَ أَوْ فُلَانَةَ

بِنْتِ فُلَانَةَ عَلَى ابْنِ فُلَانٍ أَدْبَنْتِ فُلَانَةَ

یہ لکھتے ہوئے پہلے فلاں بن فلاں کی جگہ مطلوب کا نام اور دوسری جگہ طالب کا نام لکھے اور اپنے دائیں بازو پر بانٹھ لے۔ انشاء اللہ تعالیٰ مطلوبہ مقصد میں بہت کامیابی ہوگی۔ مطلوب کے دل میں اس کی محبت شدید پیدا ہوگی

## خونی بواسیر کا علاج

اگر کوئی خونی بواسیر کے عارضہ میں مبتلا ہو تو چاہیے کہ ہر روز باوضو حالت میں ایک ہزار مرتبہ

يَا عَلِيُّ الْعَظِيمُ

پڑھ کر پانی پر دم کرے اور مریض کو پلانے۔ سات یوم تک بلا ناغہ اسی طرح کرے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرض میں افاقہ ہوگا۔ سات یوم میں خون آنا بند ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ شفا لے گا لہٰذا نصیب فرمائے گا۔

## مال کی حفاظت

گھر میں اگر مال موجود ہو اور خطرہ ہو کہ کوئی اسے چرا کر نہ لے جائے تو رات کو سونے سے پہلے باوضو حالت میں تین مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے تین مرتبہ چاروں قل شریف پڑھے اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھے اور اپنی انگشت شہادت پر دم کر کے اپنے گھر کے گرد اشارہ کرتے ہوئے حصار کر کے

تین مرتبہ اس طرح دستک دے کہ تین بار تالی بجائے انشاء اللہ تعالیٰ مال محفوظ رہے گا۔ ہر روز اسی طرح رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کرے کوئی چور نقصان نہ پہنچا سکے گا۔

## مستجاب الدعوات ہونا

جو کوئی یہ چاہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی حماوت پیدا ہو جائے قلب میں رقت پیدا ہو جائے اور وہ جو بھی جائز دعا بارگاہ الہی میں مانگے وہ قبولیت کا شرف حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ ہر روز نماز عصر کے بعد نہایت توجہ و کیسوئی کے ساتھ سترہ مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ لیا کرے انشاء اللہ تعالیٰ قلب میں رقت پیدا ہو جائے گی اور جو دعائیں مانگے گا قبول ہوگی

## زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے جو کوئی محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سرشار ہو کر حججہ کی نماز کے بعد دو رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ آیتہ الکرسی اور گیارہ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک سو مرتبہ یہ درود پاک پڑھے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ دَائِلِهِ وَصَحْبِهِ

وَسَلِّ

ہر جمعۃ المبارک کو یہ عمل کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ تین سات یا اکیس جمعہ کے اندر اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوگا۔

## لا علاج مرض کے لیے

اگر کوئی کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جس میں کوئی افاقہ نہ ہوتا ہو تو ہر روز نماز فجر کے بعد ایک سو مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھ کر پانی پر دم کرے اور ہر روز یہ دم کیا ہو پانی مریض کو پلائے۔ اس کے ساتھ ہی ایک سو مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھ کر مریض پر بھی دم کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ چند دنوں میں مرض میں افاقہ ہوگا۔ اور صحت یابی ہوگی۔

## دودھ کی کمی

اگر کوئی زچہ دودھ کی قلت کا شکار ہو دودھ میں اس قدر کمی ہو کہ شیر خوار بچہ بھوکا رہتا ہو تو تین سو مرتبہ با وضو حالت میں  
هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ  
پڑھ کر پانی پر دم کرے اور ہر روز عورت کو پلائے۔ یفضل باری تعالیٰ دودھ میں کمی کی شکایت دور ہو جائے گی اور دودھ کی فراوانی ہوگی۔

## سحر دور ہو

اس مقصد کے لیے چاہیے کہ ایک سفید کاغذ پر عرقِ گلکلاب اور شکر سے

آیتہ الکرسی لکھے اور سحر زدہ کے سر پر باندھ دے۔ اس کے ساتھ ہی گیارہ مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر دم کرے تو بفضلِ باری تعالیٰ سحر کا اثر جاتا رہے گا۔

## پچپش کا علاج

پچپش کے عارضہ میں زیادتی ہونے کی صورت میں ایک سفید کاغذ پر عرقِ گلکلاب اور زعفران سے آیتہ الکرسی لکھ کر پانی میں گھولے اور مریض کو دن میں کئی بار یہ پانی پلائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد افاقہ ہوگا اور مرض دور ہو جائے گا۔

## جلد شادی کے لیے

اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد ایک سو مرتبہ

يَا اَلْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

پڑھ کر تین مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائے مانگے اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ شادی کے پیغام آنا شروع ہو جائیں گے اور حسبِ نشاء نیک اور صالح نوجوان سے شادی ہو جائے گی۔ اس مقصد کے لیے یہ آزمودہ عمل ہے۔

## نسیان کا عارضہ

جو کوئی مرض نسیان میں مبتلا ہو ہر بات بھول جاتا ہو اگر طالب علم ہے تو سبق یاد نہ رہتا ہو تو چاہیے کہ پنجشنبہ کے دن روزہ رکھے اور افطاری سے قبل با وضو حالت میں چپتی کچی پلیٹ پر عرق کلاب اور زعفران سے

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

لکھا اور بارش کے پانی یا عام تازہ پانی سے دھو کر اس سے روزہ افطار کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ قلب میں وسعت پیدا ہوگی۔ حافظہ مضبوط ہو جائے گا جو کچھ یاد کرے گا کبھی نہ بھولے گا۔ یادداشت خوب بہتر ہو جائے گی اور مرض نسیان جاتا رہے گا۔

## حمل قائم رہے

اگر کسی عورت کو حمل قرار نہ پاتا ہو یا حمل قائم نہ رہتا ہو اور گر جاتا ہو تو چاہیے کہ چاند کے مہینہ کی پہلی جمعرات کو با وضو حالت میں نماز فجر کے بعد اول ٹوبان کی دھونی لگائے پھر سات مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے بعد اکیس مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے اور ایک سفید کاغذ عرق کلاب اور مشک سے یہ لکھے :-

ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو اللہ اللہ اللہ  
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم  
وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى خَيْرَ خَلْقِهِ مُحَمَّدًا وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ  
اَجْمَعِيْنَ

کھننے کے بعد یہ تعویذ عورت کو دے کہ وہ اس کو اپنے پاس رکھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے عورت حاملہ ہوگی اور اس کا حمل قائم رہے گا اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت مرحمت فرمائے گا۔

## روحانی قوت کیلئے

جو کوئی یہ چاہے کہ اسے روحانی طور پر تقویت حاصل ہو جائے اس کا قلب مضبوط ہو جائے تو اسے چاہیے کہ ہر روز نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد ستر مرتبہ

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

پڑھنے پر مداومت کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ مطلوبہ مقصد میں کامیابی ہوگی اس کے علاوہ اگر کوئی بیمار ہر روز پڑھے تو اسے جلد شفا حاصل ہو۔ اگر پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے یا کسی سے دم کر لے تو ستر مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے اللہ تعالیٰ بیماری سے جلدی نجات عطا فرماتا ہے۔ قلب کو تقویت ملتی ہے عمر دراز ہو جاتی ہے۔ چونکہ یا حی یا قیوم اسم اعظم ہے اس لیے جسمانی اور روحانی امراض میں شفا کے لیے بکثرت پڑھنا نہایت فائدہ مند ہے۔

## چشمِ خلّاق میں قبول ہو

چشمِ خلّاق میں مقبول و معزز ہونے کی غرض سے ہر نماز کے بعد سات مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے۔ اس کے بعد ایک سو مرتبہ یا عظیم کا ورد کرے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ انشاء اللہ تعالیٰ مخلوق کی نظروں میں بہت معزز و مقبول ہو جائے گا۔ اس عمل کی مداومت کرنے سے بفضلِ باری تعالیٰ مطلوبہ مقصد میں جلد کامیابی ہوگی۔

## حافظہ کی مضبوطی

حافظہ مضبوط کرنے کی غرض سے دائیں ہاتھ کی پھیلی پر عرق گلاب اور زعفران سے با وضو حالت میں کسی نیک آدمی سے آیتہ الکرسی لکھوائے اور چاٹ لے۔ سات یوم تک بلا ناغہ یہ عمل کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ جو بات بھی سنے گا یا پڑھے گا اسے یاد رہے گی، کبھی نہ بھولے گی۔ قوتِ حافظہ خوب مضبوط ہو جائے گی۔

## باسور کا عارضہ

باسور کے تکلیف دہ مرض سے جلد نجات حاصل کرنے کے لیے گیارہ مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر پانی پر دم کرے اور مریض کو دن میں کئی مرتبہ پانی پلائے۔ اکیس یوم تک بلا ناغہ اسی طرح دم کر کے مریض کو پلائے

انشاء اللہ تعالیٰ چند دنوں میں ہی مرض میں افاقہ ہوگا اور بیماری جاتی رہے گی شفا یابی ہوگی۔

## کھیت کی حفاظت

اگر کسی کے کھیت پر جنگلی جانور یا سور وغیرہ حملہ آور ہو جائے ہوں اور فصل خراب کر دیتے ہوں نقصان پہنچاتے ہوں تو با وضو حالت میں یہ آیتہ مبارکہ ایک سفید کاغذ پر لکھے۔

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

اس لکھے ہوئے کاغذ کو اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ کر کھیت کے چاروں طرف پھرتے ہوئے آیتہ الکرسی پڑھتا جائے۔ جس قدر تعداد میں بھی آیتہ الکرسی پڑھ سکے پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے کھیت کا حصار ہو جائے گا اور کوئی جنگلی جانور وغیرہ کھیت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ فصل ہر طرح سے نقصان سے محفوظ ہو جائے گی۔

## دردِ جگر کے لیے

جگر کے درد میں آرام و شفا حاصل کرنے کی غرض سے صبح، دوپہر، شام

چینی کی پیٹ پر باوضو حالت میں ایک مرتبہ عرق گلاب اور زعفران سے آیتہ الکرسی لکھے اور پانی سے دھو کر مریض کو پلائے۔ اکیس یوم تک بلاناغہ یہ عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان دنوں کے اندر اندر بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آیتہ الکرسی کی برکت سے جگر کے درد میں شفا لے گا اور عطا فرمائے گا۔

## کشائش رزق کے لیے

جو کوئی اپنے رزق حلال میں فراوانی کا خواہاں ہو اسے چاہیے کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد بغیر کوئی کلام کیے فوری طور پر آیتہ الکرسی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی فراخ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ رزق حلال نصیب فرمائے گا اور رزق میں خوب فراوانی ہوگی۔

## اختلاج قلب کے لیے

ایسا مریض جو اختلاج قلب کے عارضہ میں مبتلا ہو اس کے لیے چاہیے کہ چینی کی پیٹ پر عرق گلاب اور زعفران سے آیتہ الکرسی لکھ کر صبح کے وقت پانی سے دھو کر پلائے۔ اس مرض میں بہت جلد فاقہ ہوگا جب تک مکمل طور پر صحت حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک روزانہ یہ عمل کرنا چاہیے اور ہر روز بلاناغہ مریض کو یہ پانی پلایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزانہ سات مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر مریض کے دل کے مقام پر دم کیا جائے

انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد شفا حاصل ہوگی۔

## دلوں کو مسخر کرنا

جو کوئی یہ چاہے کہ لوگوں کے قلوب اس کے لیے مسخر ہو جائیں جس کے بھی سامنے جائے وہ اچھے سلوک سے پیش آئے تو اسے چاہیے کہ وہ صبح نماز فجر کے بعد سے سورج نکلنے تک بکثرت

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

کا ورد کرتا رہے اور جب سورج طلوع ہو جائے تو تین مرتبہ آیتہ الکرسی اس طرح سے پڑھے کہ اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے حصول کی دعائے مانگے۔ بقیض باری تعالیٰ اسے مطلوب مقصد میں کامیابی ہوگی۔ چالیس یوم تک بلاناغہ یہ وظیفہ کرے۔ نہایت آزمودہ وظیفہ ہے۔

## ادائیگی قرض کے لیے

جو کوئی قرض دار ہو اور قرض ادا کرنے کی سکت نہ رکھتا ہو اور قرض خواہ اسے بہت زیادہ تنگ کرتے ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ ہر روز نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد اکتالیس مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے عاجزی و انکساری کے ساتھ دعائے مانگے۔ ایک چلہ تک روزانہ بلاناغہ اس وظیفہ کو اپنا معمول بنائے انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد غیب سے قرض کی ادائیگی کے جلد اسباب پیدا

ہو جائیں گے اور قرض خواہ پریشان نہ کریں گے۔ قرضہ بھی ادا ہو جائیگا

## سمندری سفر میں حفاظت

اگر کوئی سمندری جہاز یا کشتی میں سوار ہو کر جانے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ با وضو حالت میں آیتہ الکرسی پڑھتے ہوئے سوار ہو اور سفر کے دوران بکثرت آیتہ الکرسی کا ورد کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ سفر کے دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے گا۔ بخیر و عافیت سفر طے ہوگا اور اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔

## ولادت میں آسانی

جو حاملہ عورت بچے کی ولادت میں آسانی کی خواہاں ہو تو اس کے لیے چاہیے کہ با وضو حالت میں ایک سفید کاغذ پر عرق گلاب و زعفران سے آیتہ الکرسی اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص لکھ کر پانی میں گھول کر پلایا جائے انشاء اللہ تعالیٰ دردِ زہ کی تکلیف میں کمی ہوگی اور بچے کی ولادت آسانی ہو جائے گی۔

## گناہوں کی بخشش کیلئے

جو کوئی یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمادے۔ اس کی بخشش فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ ہر ماہ چاند کے مہینے کی تیرہویں

چودھویں اور پندرہویں تاریخ کو روزہ رکھے اور افطاری کے بعد نمازِ مغرب ادا کرنے کے بعد سولہ رکعت نفل نماز آٹھ سلام سے پڑھے یعنی دو رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بارہ مرتبہ آیتہ الکرسی اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جائے تو بارہ مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اس عمل کی مداومت کرنے سے انشاء اللہ تعالیٰ قلب میں رقت پیدا ہوگی۔ گناہوں سے نفرت کرنے کا جذبہ اور نیکی کے کاموں سے رغبت کی توفیق حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے گا۔ قیامت کے دن اس کا چہرہ نور سے چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا دکھائی دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا۔

## ترقی رزق کے لیے

فراخی رزق کے لیے جو کوئی شجبان المعظم کی پندرہویں شب کو غسل و وضو کر کے پاک صاف کپڑے پہن کر دو رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیتہ الکرسی پڑھے اور پھر سلام پھیرنے کے بعد گیارہ مرتبہ آیتہ الکرسی اس طرح سے پڑھے اور بارگاہِ الہی میں دعا مانگے کہ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ رزق کے بارے میں مانگی ہوئی دعا ضرور قبولیت کا شرف حاصل کرے گی اور کشائشِ رزق ہوگی۔

## حاکم مہربان ہو

اگر کسی کو حاکم کے سامنے جانا مقصود ہو اور اس بات کا خواہاں ہو کہ حاکم اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے تو اسے چاہیے کہ وہ جانے سے پہلے سات مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے اور بکثرت

یا حییٰ یا قیوم

کا درد کرتا ہوا جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ حاکم مہربان ہوگا اور حسب توقع پیش آئے گا۔ شیخ بونہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی صبح صادق کے وقت بکثرت یا حییٰ یا قیوم کا درد کرے تو مخلوق کے دل اس کے لیے مسخر ہوں گے۔

## مشکل کے لیے

اگر کوئی بہت ہی مشکل کام پیش آگیا ہو اور اس مشکل کی وجہ سے شدید پریشانی ہوگئی ہو تو چاہیے کہ اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھے اور با وضو حالت میں قبلہ رخ ہو کر بیٹھے۔ ایک سو بار آیتہ الکرسی پڑھے اس کے بعد بارگاہِ الہی میں مشکل کے حل کے لیے دعا مانگے۔ انشاء اللہ تعالیٰ مشکل آسان ہو جائے گی۔



## دل کا عارضہ

جو کوئی عارضہ قلب میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد کھلے توجہ یکسوئی کے ساتھ آیتہ الکرسی کو دیکھ کر تین مرتبہ اس طرح سے پڑھے کہ چند لمحے تک آیتہ الکرسی کے آغاز میں اسمِ حسنیہ (اللہ پر اپنی نگاہ جمائے اور یہ تصور کرے کہ یہ اسم پاک قلب پر بھی لکھا ہوا ہے اس کے بعد آیتہ الکرسی دیکھ کر تلاوت کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ عارضہ قلب میں بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شفا کے کاملہ نصیب فرمائے گا۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ دل کے تمام امراض سے محفوظ رہے تو وہ ہر روز ایک مرتبہ اسی طرح آیتہ الکرسی پڑھنے پر مداومت رکھے بفضل باری تعالیٰ اس کا دل جلد امراض سے محفوظ رہے گا

## دشمنوں سے بچاؤ کے لیے

دشمنوں کے شر اور اس کے وار سے محفوظ رہنے کے لیے چاہیے کہ فجر کی نماز فرض کا سلام پھیرنے کے ساتھ ہی اسی جگہ بیٹھ کر پچیس مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے پھر نماز مغرب کی فرض نماز ادا کرنے کے فوراً بعد اسی جگہ پر قبلہ رخ ہو کر آٹھ مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے اور بارگاہِ الہی میں دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا مانگے۔ بفضل باری تعالیٰ دن اور رات کے کسی بھی حصہ میں دشمن نقصان پہنچانے کی جرأت نہ کرے گا۔ ہر روز یہ عمل کرنے سے دشمن مغلوب ہوگا۔ دشمن کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا اور اس کا

دارکارگز نہ ہوگا۔

## سا دولت مند ہونا

جو کوئی جائز طریقہ سے دولت مند ہونے کا خواہاں ہو اسے چاہیے کہ وہ ہر روز بلا ناغہ ایک سو دس مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ لیا کرے۔ اس عمل کی برکت سے انشاء اللہ تعالیٰ غربت دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پر وہ غیب سے دولت مندی کے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ اس وظیفہ کی مدد سے دولت مند ہونا ہے۔

## صرع کے لیے

باوضو حالت میں اکیس مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر مصروع پر دم کرے اس کے بعد مصروع کی دونوں ہتھیلیوں پر یہ دعا پڑھ کر دم کرے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَوْفَاشْ فَاَوْفَاشْ صِرْتَاشْ اسْتِیْنَا فِیْ خَطْوٰنِ شَغْدَاشْ

دَوَاشْ اللّٰهُ الْعِزَّةُ یَا طِیْهُوجْ شِیُوخْ اِرْقَعْ شِیُوخْ

اِدْمُوَا حَثْنَا الْقَدِیْمِ الْاَوْلی الْاَبْدِی اِنَّ الَّذِیْنَ

فَقَنُوْا الْکُوْمُنِیْنَ وَالْمُوْمِنَاتِ نُو لَوْ یُوْبُوْا اَقْلَهُوْ

عَذَابِ جَهَنَّمَ وَ لَکُمْ عَذَابُ الْحَرِیْقِ اَشْهَدُکُمْ

لِیَعِشَرَ اَلْحَبِّ بِاللّٰهِ لَا تَصْرُوْا حَامِلِ هَذَا الْهَیْکَلِ

فَلَوْنَ بِنَفْسِیْ وَاَنْ تَتْرُوْا کَافِی حَوْلَ اللّٰهِ تَعَالٰی

وَحَمٰیْتِهِ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ یَحَقِّ

مُحَمَّدٍ وَاٰلِہٖ اَجْمَعِیْنَ

اس کے بعد مشک و زعفران سے ایک سفید کاغذ پر آیتہ الکرسی اور یہ دعا لکھ کر تعویذ کی شکل میں مصروع کے گلے میں ڈالے۔ اس مقصد کے لیے یہ بہت تیرہ دفع عمل ہے۔

## نکسیر آنا

نکسیر آنے کی صورت میں گیارہ مرتبہ آیتہ الکرسی اور گیارہ مرتبہ یہ

درد دیاک

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ

الْاُمِّیِّ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ

پڑھ کر دم کرے۔ اس کے بعد یہ پانی پر بھی اسی طرح دم کر کے پلے

انشاء اللہ نکسیر رگ جائے گی اور خون آنا بند ہو جائے گا۔

## برائے حاجت

جو بھی جائز حاجت بارگاہ الہی سے جلد پوری کروانے کی غرض سے

چاہے کہ نماز عشاء کے بعد چار رکعت نفل نماز دو رکعت کر کے اس

طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین بار آیتہ الکرسی پڑھے

نماز سے فراغت کے بعد اکیس مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے بعد تین مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے۔ پھر ایک مرتبہ یہ دعا پڑھے:-

سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْعِزَّةِ سُبْحَانَ ذِي الْقُدْرَةِ  
وَالْمَلَكُوتِ سُبْحَانَ ذِي الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا  
يَمُوتُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْبَدْرِ وَالْحَمْدُ  
لِلَّهِ كَثِيرًا ط اللهُ كَثِيرًا ط اللهُ  
كَبِيرًا ط اللهُ كَثِيرًا ط اللهُ كَثِيرًا ط اللهُ كَثِيرًا ط اللهُ

اس کے بعد پھر تین بار آیتہ الکرسی پڑھے اور اکیس بار درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت روائی کی دعا مانگے۔ انشاء اللہ تعالیٰ دعا قبولیت کا شرف حاصل کرے گا اور حاجت روائی جلد ہوگی۔

## انجام کی فکر سے نجات

جو کوئی ہر وقت اپنے انجام کی فکر کے باعث خوفزدہ رہتا ہو اور اس فکر میں کھویا رہتا ہو کہ معلوم نہیں آخرت میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا آخرت کے عذاب کا خوف اس کے ذہن پر سوار رہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر روز با وضو حالت میں اکیس مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھنے کا معمول بنالے۔ بفضل باری تعالیٰ اس کا قلب مطمئن ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آیتہ الکرسی کی برکت سے جہنم کی آگ اس پر حرام فرمادے گا۔ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔

## بانجھ پن کا علاج

ایسی عورت جو بانجھ ہو اولاد کی نعمت سے محروم ہو تو چاہیے کہ با وضو حالت میں ایک سفید کاغذ پر عرق گلاب افروز عفران سے یہ تعویذ لکھے

ہو ہو

اللہ اللہ

حی حی

قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم

اور پانی میں گھول کر سات مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر دم کرے۔ سات دن تک بانجھ عورت کو پلانے۔ انشاء اللہ تعالیٰ بانجھ پن کا عارضہ ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔

## جلد شفاء کے لیے

اگر کوئی بیمار مرد و عورت بکثرت آیتہ الکرسی پڑھنے پر مداومت کرے اور نیت یہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا لے گا ملہ نصیب فرمائے تو انشاء اللہ تعالیٰ اسے جلد صحت عطا ہوگی۔ بیماری میں دن بدن افاقہ ہوگا اور عارضہ رفع ہو جائے گا۔



## خفقان کا مرض

جو کوئی اس مرض کا شکار ہو تو چاہیے کہ با وضو حالت میں چینی کی پلیٹ پر تین مرتبہ آیتہ الکرسی لکھ کر تازہ اور صاف پانی سے دھو کر روزانہ مریض کو پلائے اور پلاتے ہوئے یہ کہے

نویت الشفاء من العلة خفقان

چند دنوں میں ہی اثر ظاہر ہوگا۔ دن بدن مرض میں کمی واقع ہوگی۔ جب تک کامل آرام نہ آجائے اس وقت تک بلا ناغہ ہر روز پلائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ جلد ہی شفا ہوگی۔

## بلند مرتبہ کے لیے

جو کوئی روحانی طور پر بلند مرتبہ کے حصول کا خواہش مند ہو اور چاہتا ہو کہ بارگاہِ الہی کی قربت حاصل ہو جائے تو وہ ہر روز بلا ناغہ ایک سو اکیس مرتبہ آیتہ الکرسی اس طرح سے پڑھ لیا کرے کہ اول و آخر اکیس اکیس بار درود پاک پڑھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ مطلوبہ مقصد میں ضرور کامیابی ہوگی۔ اس وظیفہ کو اپنا معمول بنا لینے سے مرتبہ میں بلندی اور ترقی نصیب ہوتی ہے۔

## آسیب حاضر کرنا

آسیب کو حاضر کرنے کی غرض سے غسل کر کے پاکیزہ لباس پہننے اور

آسیب زدہ کے سامنے بیٹھ کر پہلے اکیس مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے اس کے بعد چند خوشبودار پھولوں پر یہ عزیمت پڑھے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ عَزِمْتُ عَلَیْكَوَفَتَحَرَ لَكَ  
حَبِیْبًا عَلَیَّ اَلْمَوَدَّةَ صَفْكًَا صَفْكًَا اَلِیَّا اَلِیَّا  
جَلَسًا جَلَسًا طَلِیًّا طَلِیًّا سُوْدًا اَكْهَلًا اَكْهَلًا جَهْلًا  
جَلْمًا مَسْهَلًا مَسْهَلًا سَنْجَبًا سَنْجَبًا شِدَا اَرْغَبًا  
بِحَقِّ خَاتَمِ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ اِحْضُرُوا  
مِنْ جَانِبِ الْمَشَارِقِ وَالْمَغْرِبِ مِنْ جَانِبِ الْاَتْحٰنِ  
وَالَا یَسْرُ بِحَقِّ ذٰلِكَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ  
بِحَقِّ عَرْشِ اللّٰهِ وَكَرْسِیَّتِهِ

تین مرتبہ یہ عزیمت پڑھنے کے بعد پھولوں پر دم کرے اور آسیب زدہ کو گھمکائے اس کے بعد یہ پھول اس پر مارے فوری طور پر آسیب حاضر ہو جائے گا۔

## دل کی گھبراہٹ

اگر کسی کا دل بلا وجہ گھبراتا ہو گھٹن محسوس ہوتی ہو تو چاہیے کہ سات مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر پانی پر دم کرے اور پلا دے۔ سات یوم تک بلا ناغہ یہ دم کیا ہوا پانی روزانہ دم کر کے پلائے۔ اس کے ساتھ آیتہ الکرسی لکھ کر تعویذ کی طرح گلے میں اس طرح سے ڈالے کہ تعویذ قلب کے نزدیک رہے انشاء اللہ تعالیٰ دل کی گھبراہٹ ختم ہو جائے گی، بے چینی جاتی رہے گی،

قلب کو تقویت حاصل ہوگی۔

## آسیب سے حفاظت کے لیے

جو کوئی یہ چاہے کہ وہ آسیب کے اثر سے محفوظ رہے کوئی جن یا پری اس پر سایہ نہ کر سکے اور اسے آسیب تنگ و پریشان نہ کرے تو وہ اسے چاہیے کہ وہ ذیل میں دیا ہوا نقش آیتہ الکرسی با وضو حالت میں مشک، زعفران و عرق گلاب سے صبح نماز اشراق کی ادائیگی کے بعد قبلہ رخ ہو کر لکھے اور نقش کے اوپر ذیل میں دیے ہوئے کلمات بھی لکھے، لکھنے کے بعد تعویذ کی طرح تیار کر کے گلے میں ڈالے۔ جہاں بھی جائے پاکی پمیدی کا خیال رکھے اور تعویذ کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ ہر طرح سے اس کی حفاظت رہے گی۔ کوئی بھی مخلوق اس کو نقصان نہ پہنچائے گی، کلمات و نقش یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یٰ اَدِلِّی الْمُتَحِیْرِیْنَ یٰ اَعِیَابِ  
الْمُسْتَعِیْنِ یٰ اَحْمِبِ دَعْوَاتِ الْمَضْطَرِیْنِ یٰ اِلٰهَ الْعٰلَمِیْنَ  
بِحَقِّ اَیّٰکَ لَعِبْدُ وَاَیّٰکَ لَسْتَعِیْنُ ط

۷۷

۳۶۶۱	۳۶۶۴	۳۶۶۷	۳۶۶۳
۳۶۶۶	۳۶۶۵	۳۶۶۰	۳۶۶۵
۳۶۶۶	۳۶۶۹	۳۶۶۲	۳۶۶۹
۳۶۶۳	۳۶۶۸	۳۶۶۷	۳۶۶۸

## آفات سے بچاؤ کے لیے

ہر طرح کی ارضی و سماوی آفات و بلیات سے اپنے آپ کو بچانے کی غرض سے چاند کے مہینہ کی پہلی سووار کو نماز فجر کے بعد اکتالیس مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے۔ اول و آخر اکیس اکیس مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اس کے بعد نہایت توجہ و کیسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ پھر ذیل میں دیا ہوا نقش آیتہ الکرسی لکھے اور اس کو اپنے بازو پر تعویذ کی طرح باندھ کر لے، ہر روز گھر سے روانہ ہونے سے قبل ایک مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ آیتہ الکرسی کی برکت سے جملہ آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا اور بحفاظت واپسی ہوگی۔ جہاں بھی جائے گا امن و سلامتی پائے گا۔ نقش مبارک یہ ہے۔

۷۸

۱۵۴۳	۱۵۴۸	۱۵۴۵
۱۵۴۴	۱۵۴۲	۱۵۴۰
۱۵۴۹	۱۵۴۶	۱۵۴۱

## چشم خلالتی میں مقبول ہونا

جو کوئی یہ چاہے کہ لوگوں کی نظروں میں اس کا مرتبہ بلند ہو جائے جہاں بھی جائے لوگ اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئیں تو وہ آیتہ الکرسی میں موجود

اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنة میں سے اسم حسنه الْعَظِيمُ کو با وضو حالت میں بکثرت ورد کرنے کا معمول بنانے اور ذیل میں دیا ہوا اس اسم مبارک کا نقش عرق و گلاب و زعفران سے لکھ کر اپنے پاس رکھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس کو مطلوب مقصد میں ضرور کامیابی ہوگی۔ چشمِ خلعت میں مقبول و معزز ہوگا۔ عزت و مرتبہ میں خوب اضافہ ہوگا۔ نقش مبارک یہ ہے۔

۲۵۰	۲۶۱	۲۶۲	۲۴۷
۲۵۶	۲۵۳	۲۵۲	۲۵۹
۲۵۱	۲۵۸	۲۵۷	۲۵۴
۲۶۳	۲۴۸	۲۴۹	۲۶۰

## تپ دلرزہ کے لیے

اگر کسی کو تپ دلرزہ کا عارضہ لاحق ہو تو چاہیے کہ آیتہ الکرسی میں موجود پروردگار عالم کا ذاتی اسم مبارک اللہ کی برکات و خواص سے فائدہ اٹھانے اور شفا حاصل کرنے کی غرض سے با وضو حالت میں عرق گلاب و زعفران سے ایک سفید کاغذ پر یا اللہ کا نقش لکھے اور مریض کے گلے میں ڈال دے انشاء اللہ تعالیٰ تپ دلرزہ میں افادہ ہوگا۔ اور صحت یابی ہو جائے گی۔ نقش مبارک اگلے صفحہ پر ہے۔

۸	۱۱	۲۶	۱
۲۵	۲	۷	۱۲
۳	۲۸	۹	۶
۱۰	۵	۴	۲۷

## صلح و محبت کے لیے

جو کوئی دو دشمنوں کے مابین دشمنی ختم کرنے کا خواہاں ہو، ان کی باہمی نفرت کو محبت میں تبدیل کرنا چاہتا ہو یا اگر کسی کے دل میں کسی کی طرف سے دشمنی یا نفاق ہو اور کسی غلط فہمی کی وجہ سے اس کے دل میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی ہو اور وہ کسی طرح صلح کے لیے راضی نہ ہوتا ہو تو چاہیے کہ ذیل میں دیا ہوا نقش آیتہ الکرسی با وضو حالت میں اس طرح سے لکھے یعنی ایک سفید کاغذ پر عرق گلاب و زعفران سے لکھے

۳۵۱۷	۳۵۲۰	۳۵۲۳	۳۵۱۱
۳۵۲۲	۳۵۱۲	۳۵۱۶	۳۵۲۱
۳۵۱۳	۳۵۲۵	۳۵۱۸	۳۵۱۵
۳۵۱۹	۳۵۱۴	۳۵۱۲	۳۵۲۴

نقش کے نیچے فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں لکھے اور پانی میں گھول کر

## مصیبت سے محفوظ رہنے

جو کوئی آیتہ الکرسی میں موجود اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنة میں سے  
الْحَيِّ کا نقش لکھ کر اپنے پاس رکھے تو اس کی برکت سے ہر طرح کی  
مصیبت و پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ جملہ آفات و بلیات سے محفوظ رہے  
گا۔ اگر کسی مشکل میں مبتلا ہے تو اس کو اپنے بازو پر باندھ رکھے۔ اللہ تعالیٰ  
کے فضل و کرم سے جو بھی مشکل ہوگی وہ اس نقش کی برکت سے آسان ہو  
جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مصیبت و مشکل سے خلاصی عطا فرمائے گا۔ پریشانی  
راحت میں بدل جائے گی۔ نقش مبارک یہ ہے۔

۷۸۶

۱	ل	ح	ی
۲۳	۹	۹	۱۵
۷	۱۲	۲۶	۲
۱۸	۵	۶	۲۵

## مال کی حفاظت کے لیے

جس کسی کو اپنے مال کے چوری ہو جانے یا تلف ہو جانے کا خطرہ ہو  
تو اسے چاہیے کہ ذیل میں دیا ہوا نقش با وضو حالت میں عرق گلاب اور زعفران  
سے ساعت شمس میں لکھ کر اپنے مال میں رکھ دے۔ اس نقش کی برکت سے

اس کو پلائے کہ جس کے دل میں محبت پیدا کرنی مقصود ہو، انشاء اللہ تعالیٰ  
اس کے دل سے دشمنی جاتی رہے گا وہ صلح و محبت کی طرف راغب ہوگا اور  
دشمنی محبت میں بدل جائے گی۔

## وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے

اگر کوئی بچہ یا بڑا کسی وبائی مرض کا شکار ہو گیا ہو یا وبائی مرض بھوٹ  
پڑنے پر اس سے بچاؤ کا خواہاں ہو اور چاہتا ہو کہ وہ اس مرض کے حملہ  
سے بچا رہے تو وہ ذیل میں دیا ہوا نقش ایک سفید کاغذ پر لکھے اور اس پر  
سات مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر دم کہے خود بھی پہنے اور مریض کے گلے میں  
بھی ڈال دے۔ اس نقش کی برکت اور آیتہ الکرسی کی برکت سے بفضل باری  
بیماری سے نجات عطا ہوگی۔ جان کی حفاظت رہے گی۔ بیمار کو اللہ تعالیٰ  
بہت جلد شفا کے کاملہ سے نوازے گا۔ نقش مبارک یہ ہے :-

۷۸۶

۲۲	۲۵	۲۸	۱۵
۲۷	۱۶	۲۱	۲۶
۱۷	۳۰	۲۳	۲۰
۲۴	۱۹	۱۸	۲۹

## بلند مرتبہ کے لیے

جو کوئی دینی و دنیوی معاملات میں بلند مرتبہ کا خواہاں ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد آٹھ مرتبہ آیتہ الکرسی اس طرح پڑھ لیا کرے کہ اول و آخر درود پاک پڑھے۔ اس کے علاوہ با وضو حالت میں ذیل میں دیا ہوا نقش لکھ کر اپنے پاس رکھے۔ اس نقش کی برکت سے بلند مرتبہ حاصل ہوگا۔ جس نیک مقصد کے لیے نقش اپنے پاس رکھا ہے اس میں کامیابی ہوگی۔ چشم خلائق میں عزیز و محترم ہوگا۔ نقش مبارک یہ ہے:-

۷۸۶

۹۰۱	۲۵	۸	۶
۷	۷۱	ظ ۹۰۰	۲۲
۷۲	۵۵۵	۲۵	۸۹۹
۲۰۴	۸۶۸	۷۳	۹

## قلبی سکون کے لیے

اگر کسی کا قلب کسی بھی طرح مطمئن نہ ہوتا ہو اور وہ بے چین رہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ چالیس یوم تک بلاناغہ ایک سو مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھا کرے اس کے ساتھ ذیل میں دیا ہوا نقش با وضو حالت میں زعفران و عرق دکلاب سے لکھ کر اس پر سات مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر اپنے پاس رکھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ

انشاء اللہ تعالیٰ مال کی حفاظت رہے گی۔ کسی قسم کا نقصان نہ ہوگا۔  
نقش مبارک یہ ہے:-

۷۸۶

بِسْمِ اللّٰهِ	لَا اِلٰهَ اِلَّا	هُوَ الْحَيُّ	الْقَيُّوْمُ
۵۰	۱۸۶	۱۳۸	۱۰۹
۱۸۵	۲۷	۱۱۱	۱۳۹
۱۱۱	۱۲۰	۱۸۲	۲۲

## شفا کے کاملہ کے لیے

اگر کوئی بیمار ذیل میں دیا ہوا نقش اپنے پاس رکھے تو اسے بیماری میں افاقہ ہو اور جلد صحت یابی حاصل ہو۔ اس کے علاوہ بیمار بکثرت یا حج یا قیوم کا ورد بھی کرتا رہے۔ نقش مبارک یہ ہے:-

۷۸۶

۵	۱۰	۳
۲	۶	۸
۹	۲	۷

۹۹	۸	۳۸	۱۱
۲۹	۱۵۵	۱۵۵ ق	۷
۱۳	۲۵۴	۶۹	۹۷
۵	۹۸	۱۲	۲۱

## تنگ دستی دور ہو

جو کوئی یہ چاہے کہ غیب سے اس کی ضروریات پوری ہوں رزق میں فراوانی اور خیر و برکت پیدا ہو جائے، کبھی رزق میں تنگی نہ رہے۔ غربت اور مفلسی جاتی رہے تو ذیل میں دیا ہوا اَلْقِیَوْمِ کا نقش ساعت شمس میں با وضو حالت میں لکھ کر اپنے پاس رکھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ہر قسم کی جملہ حاجات سے بے نیاز ہو جائے گا۔ پروردگار عالم اس کو کسی کا محتاج نہ کرے گا۔ نقش مکرم یہ ہے :-

۳۴	۴۵	۴۶	۳۱
۲۵	۳۷	۳۶	۴۳
۳۵	۴۲	۴۱	۳۸
۴۷	۳۲	۳۳	۴۴

قلبی سکون حاصل ہوگا۔ بے یقینی کی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس نقش کی برکت سے قلب کو مطمئن فرمادے گا۔ نقش یہ ہے :-

یا اللہ

۱۹۷	۱۹۴	۱۹۱	۲۰۴
۱۹۲	۲۰۳	۱۹۸	۱۹۳
۲۰۲	۱۸۹	۱۹۶	۱۹۹
۱۹۵	۲۰۰	۲۰۱	۱۹۰

## روزگار کے لیے

اگر کوئی بے روزگار ہو اور کوئی ذریعہ معاش نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بکثرت آیتا کرمی پڑھا کرے اور ذیل میں دیا ہوا نقش با وضو حالت میں لکھ کر اپنے پاس رکھے۔ نقش پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت جلد ذریعہ روزگار مہیا فرمادے گا۔ اگر کوئی اپنے کاروبار میں خیر و برکت کا خواہاں ہو اور رزق میں فراخی چاہے تو وہ بھی یہ نقش اپنے پاس رکھے اور کاروبار کی جگہ یا دیوار کے ساتھ چسپاں کر دے۔ انشاء اللہ تعالیٰ روزی میں برکت پیدا ہوگی۔

نقش معظم اگلے صفحہ پر ہے

## سفر میں حفاظت

سفر پر روانہ ہونے سے قبل جو کوئی با وضو حالت میں پہلے اکیس مرتبہ آیتہ الکرسی اس طرح سے پڑھے کہ اول و آخر اکیس اکیس بار درود پاک پڑھے اور ذیل میں دیا ہوا نقش لکھ کر اپنے بازو پر باندھ کر سفر پر روانہ ہو تو بفضل باری تعالیٰ سفر بخیر و عافیت طے ہوگا اور بحفاظت وطن واپسی ہوگی سفر کی صعوبتوں سے بچا رہے گا۔ دوران سفر کسی قسم کی تکلیف و پریشانی نہ نہ ہوگی۔ اس نقش کی برکت سے جس مقصد کے لیے سفر کیا ہے اس میں کامیابی ہوگی۔ نقش مبارک یہ ہے۔

۷۸۶

۵	۱۵	۳۵	۷۵
۳۱	۶۹	۱	۹
۶۸	۲۸	۱۳	۲
۱۱	۳	۶۷	۲۹

## باطنی صفائی کے لیے

جو کوئی یہ چاہے کہ اس کا باطن منور ہو جائے۔ قلب میں موجود تمام کثافتیں صاف ہو جائیں تو وہ ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ لیا کرے اور نماز فجر کے بعد عرق گلاب اور زعفران سے ذیل میں دیا ہوا نقش پاک

ایک سفید کاغذ پر لکھ کر پانی میں گھول کر روزانہ پی لیا کرے۔ چالیس یوم تک بلا ناغہ اسی طرح کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ دلی حاجت پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا مانگے گا وہ قبولیت کا شرف حاصل کرے گی۔ اللہ تعالیٰ اس نقش پاک کی برکت سے حاجت روائی فرمائے گا۔

۷۸۶

۲۱	۲۶	۱۹
۲۰	۲۲	۲۳
۲۵	۱۸	۲۳

## عزت بحال ہو

اگر کسی غلط فہمی کی وجہ سے کوئی لوگوں کی نظروں سے گر گیا ہو یا اس کا ذریعہ معاش ختم کر دیا گیا ہو جس کے باعث غربت نے آن گھیرا ہو تو چاہیے کہ چالیس یوم تک بلا ناغہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے اور نماز سے قبل اکتالیس مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اس کے علاوہ اگلے صفحہ پر دیا ہوا نقش لکھ کر اپنے پاس رکھے۔ بفضل باری تعالیٰ چشم خلوت میں معزز ہو جائے گا۔ رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ غربت و افلاس کا خاتمہ ہوگا اور فراخی رزق ہوگی۔

نقش مبارک اگلے صفحہ پر ہے۔

۳۶	۴۱	۳۳
۳۴	۳۷	۳۹
۴۰	۳۲	۳۸

## کنڈ ذہنی کے لیے

ذہن کی کشادگی اور وسعت کے لیے ہر روز با وضو حالت میں تازہ روٹی پکا کلاس پر عرق گلاب اور زعفران سے ایک مرتبہ آیتہ الکرسی لکھے اور کھلا دے۔ اکیس یوم تک بلا ناغہ یہ عمل کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ذہن کشادہ ہو جائے گا۔ حافظہ مضبوط ہوگا۔ کنڈ ذہنی کی شکایت جاتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیتہ الکرسی کی برکت سے ذہن کو جلا بخش دے گا۔ ذہن اس قدر کھل جائے گا کہ کوئی بات بھی نہیں بھولے گی۔

## مال آگ سے محفوظ


اگر کسی کا مال کسی ایسی جگہ پر پڑا ہو کہ جہاں آگ لگنے کا شدید خطرہ ہو تو چاہیے کہ با وضو حالت میں آیتہ الکرسی لکھ کر اس مال میں رکھ دے۔ اس کے علاوہ ہر روز چار مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر مال کے چاروں اطراف دم کر دیا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مال آگ سے محفوظ رہے گا اور کوئی نقصان نہ ہوگا۔

## بچہ سلامت رہے

جس عورت کا حمل گر جاتا ہو یا بچہ پیدائش کے چند دنوں کے بعد مر جاتا ہو تو ساعت مشتری میں با وضو ہو کر ایک سفید کاغذ پر آیتہ الکرسی لکھے اور حاملہ کے گلے میں ڈال دے۔ انشاء اللہ تعالیٰ حمل سلامت رہے گا۔ دورانِ حمل کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی اور پھر جب بچہ پیدا ہو جائے تو یہ تعویذ بچے کے گلے میں ڈال دے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ہر مرض سے محفوظ رہے گا بچے کی جان سلامت رہے گی۔

## ناف کے لیے

اگر کسی کی ناف اپنی جگہ سے سہل گئی ہو جس کی وجہ سے صحت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہو کسی بھی طرح آرام نہ آتا ہو تو چاہیے کہ عامل با وضو حالت میں مریض کو اپنے سامنے لٹائے اور تین مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر ناف کی جگہ پر دم کرے اس کے علاوہ ذیل میں دیا ہوا نقش مبارک مشک و عرق گلاب سے لکھ کر اس کو تعویذ کی طرح بنا کر مریض کو دے کہ وہ اس کو اپنی ناف پر باندھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ناف ٹھیک ہو جائے گی۔ مریض کو فوری طور پر افاقہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اسم مبارک اور آیتہ الکرسی کی برکت سے شفا لے گا۔ نوازے گا۔ نقش مکرم اگلے صفحہ پر ہے اس میں اکیس دھڑے واؤ بنائے جائیں۔



## نامردی کے لیے

ہر روز نماز فجر کے بعد چینی کی پلیٹ پر مشک و زعفران سے آیتہ الکرسی لکھی اور بکری کے خالص دودھ سے دھو کر مریض کو پلائے۔ چالیس یوم تک بلا ناغہ یہ عمل کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ قوت باہ خوب مضبوط ہوگی۔ نامردی کی شکایت رفع ہو جائے گی۔ بفضل باری تعالیٰ پھر کبھی یہ عارضہ لاحق نہ ہوگا۔

## لوگ تعظیم سے پیش آئیں

جو کوئی یہ چاہے کہ وہ جہاں بھی جائے لوگ عزت و احترام سے پیش آئیں اور جس کی طرف بھی نگاہ اٹھائے وہ بے ساختہ تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے تو وہ ہر روز صبح کے وقت با وضو حالت میں ستائیس مرتبہ آیتہ الکرسی اس طرح سے پڑھنے پہداومت رکھے کہ اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ ہر کوئی عزت و احترام سے پیش آئے گا۔



## دکان خوب چلے

اگر کسی کی دکان اچھی بھلی چلتی ہوئی اچانک ٹھپ ہو گئی ہو۔ کاروبار سخت مندے کا شکار ہو گیا ہو۔ دکاندار حیران و پریشان ہو کہ اس کی دکان پر کالگوں کی آمدورفت کیوں بند ہو گئی ہے۔ دکان پر بکری کیوں نہیں ہوتی تو اسے چاہیے کہ وہ دکان کھولتے ہوئے تین مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ لیا کرے اس کے علاوہ ذیل میں دیا ہوا نقش با وضو حالت میں مشک و زعفران سے ایک سفید کاغذ پر لکھے اور دکان کی پیشانی پر چسپاں کر دے۔ انشاء اللہ تعالیٰ دکان خوب چلے گی اور مندے کا رجحان ختم ہو جائے گا۔ نقش مبارک یہ ہے:-

الحی القیوم	الحی القیوم	الحی القیوم	الحی القیوم
الحی القیوم	الحی القیوم	الحی القیوم	الحی القیوم
الحی القیوم	الحی القیوم	الحی القیوم	الحی القیوم
الحی القیوم	الحی القیوم	الحی القیوم	الحی القیوم

نقش مبارک کے نیچے پوری آیتہ الکرسی لکھی اور نہایت توجہ و یکسوئی کے ساتھ لکھے اور یہ مکمل نقش دکان پر لگا دے۔ روزی میں برکت کا خوب نظارہ دکھائی دے گا۔



## بچے کا ضدی ہو جانا

اگر کوئی شیرخوار بچہ ضدی ہو جائے اور بہت تنگ کرنا ہو اکثر بات بات پر ضد کرتے ہوئے روتا رہتا ہو کسی بھی طرح بہلتا نہ ہو تو چاہیے کہ باطنو حالت میں چینی کی پیٹ پر یہ لکھے :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ  
اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ  
العلی العظیم - العلی العظیم - العلی العظیم

لکھنے کے بعد پانی سے دھو کر بچے کو پلا دے۔ انشاء اللہ تعالیٰ پروردگار عالم کے اسمائے حسنة کی برکت سے بچے کا ضدی پن دور ہو جائے گا۔ بلاوجہ رونا بند کر دے گا اور تنگ نہیں کرے گا۔

## ساعتی غیبی روزی ملے

جو کوئی یہ چاہے کہ غیب سے اس کی روزی کے اسباب پیدا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اسے کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ کبھی رزق کی تنگی پیش نہ آئے گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل رہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس مقصد کے لیے یہ عمل کرے کہ چاند کے مہینے کی پہلی بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن روزہ رکھے، جمعہ کو غسل کر کے پاک صاف لباس پہنے، خوشبو لگائے اور

مسجد میں جائے، مسجد میں جاتے ہوئے راستے میں حسب توفیق خیرات کرتا ہو اور آجائے۔ مسجد میں داخل ہو کر ایک گوشے میں قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائے اور ایک سو گیارہ مرتبہ اس طرح سے آیتہ الکرسی پڑھے کہ اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود پاک پڑھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے حصول کی دعا مانگے۔ پھر جب اس عمل کو کر لے تو اپنے گھر واپس جائے اور گھر میں آیتہ الکرسی پڑھتا ہو داخل ہو۔ اس کے بعد ہر روز نماز عشاء کے بعد اکیس مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھنے پر مداومت کرے اور ہرگز ناغہ نہ کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس عمل کرنے والے کو زندگی میں کبھی رزق کی تنگی کی شکایت نہ ہوگی اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کی فراہمی کے اسباب مہیا فرمائے گا اور جو بھی جائز کاروبار کرے گا اس میں خوب خیر و برکت ہوگی۔

## قرض جلدی ادا ہو

قرض کی جلد ادائیگی اور قرض خواہوں کے تقاضوں سے نجات کے لیے چاہیے کہ چاند کے مہینے کی پہلی سو مواری کو روزہ رکھے۔ نصف شب کے بعد سو کر اٹھے اور غسل یا وضو کر کے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور گھر کے ایک کونے میں مصلیٰ بچھا کر اس پر قبلہ رخ کھڑا ہو جائے۔ اول سات مرتبہ درود پاک پڑھے اور کھڑے ہو کر ہی اکتالیس مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے اس کے بعد پھر سات مرتبہ درود پاک پڑھے اور اپنے ہاتھ مچھیل کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور پھر مصلے پر بیٹھ جائے اور اکیس مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے

سات یوم تک بلا ناغہ یہ عمل کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ غیب سے جلد قرض کی ادائیگی کا سبب پیدا ہوگا۔ قرض خواہ سختی سے پیش نہ آئے گا بلکہ خوش اخلاقی سے کلام کرے گا۔ اس سے جو بھی بات کرے گا وہ غصہ نہ کرے گا اس عمل کرتے ہوئے صرف ایک دن یعنی سو موار کے دن ہی روزہ رکھے اور آیتہ انکرسی کا عمل نصف شب کے بعد کرے۔

## قربت الہی حاصل ہو

جو کوئی یہ چاہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے اس کا شمار اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں ہو جائے تو وہ ہر روز نماز ظہر کے بعد ایک سو ایک مرتبہ آیتہ انکرسی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے گا۔ اس کی دلی حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اپنے خاص بندوں میں اس کو شمار کرے گا اس کی عزت و مرتبہ میں اضافہ فرمائے گا۔ وظیفہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔

## درم دور کرنا

جس کسی درم ہو گیا ہو تو چاہیے کہ با وضو حالت میں تین سو مرتبہ آیتہ انکرسی پڑھ کر پانی پر دم کرے اور یہ پانی مریض کو پینے کے لیے دے مریض اس دم کیے پانی کو ہر روز پیئے۔ انشاء اللہ تعالیٰ آیتہ انکرسی کی برکت سے

درم ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جسم میں ہونے والی ہر طرح کی درد بھی رفع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مریض کو صحت یابی عطا فرمائے گا۔

## اسقاطِ حمل کے لیے

اگر کسی عورت کا حمل ساقط ہو جاتا ہو اور وہ حمل کے دوران بہت زیادہ پریشان و تکلیف زدہ رہتی ہو، چاہیے کہ ذیل میں دیا ہوا نقش با وضو حالت میں لکھ کر عورت کے گلے میں ڈالے جبکہ دوسرا تعویذ لکھ کر پانی میں گھول کر عورت کو پلائے۔ پلانے والا تعویذ ہر روز لکھ کر پلائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ یہ تعویذ حمل کو قائم رکھنے کے لیے نہایت نافع ہے۔ اس کی برکت سے حاملہ حمل کے دوران جملہ تکالیف سے محفوظ رہے گی اور صحت مند بچے کی ولادت ہوگی۔ تعویذ یہ ہے:-

۷۸۶

اللہ	اللہ	اللہ
الحمی	الحمی	الحمی
القیوم	القیوم	القیوم
العلی	العلی	العلی
العظیم	العظیم	العظیم

## موتیا کا مرض

جو کوئی موتیا کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد تین بار آیتہ الکرسی پڑھے اور گیارہ مرتبہ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں پر دم کر کے اپنی آنکھوں پر پھیر لیا کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ چند دنوں میں ہی مرض میں افاتہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ جلد شفا کے کاملہ سے نوازے گا۔

## دشمن کو مغلوب کرنا

دشمن کو مغلوب و ناکام کرنے اور دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے آیتہ الکرسی کو با وضو حالت میں تین سو ساٹھ مرتبہ اس طرح سے پڑھے کہ اولاً آخر گیارہ گیارہ بار درود پاک پڑھے اور ہر مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھنے کے بعد معمولی سے توقف کے بعد یہ کلمات بھی کہے

يَا قَاهِرُ ذُو الْبَطْنِ الشَّدِيدِ

پھر جب تین سو ساٹھ بار آیتہ الکرسی بھی پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ باری تعالیٰ دشمن کے شر سے محفوظ رکھے اور دشمن کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچا سکے تو انشاء اللہ تعالیٰ دشمن ناکام ہوگا اور مغلوب ہوگا، کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔



## ثوابِ عظیم حاصل ہو

جو کوئی یہ چاہے کہ اسے بے شمار ثواب حاصل ہو گناہوں سے نفرت اور نیکی سے رغبت کی کیفیت دل میں پیدا ہو تو حضور غوثِ اعظم رضی اللہ عنہ کی تصنیف غنیۃ الطالبین میں ہے کہ جو کوئی نمازِ مغرب اور نمازِ عشاء کے درمیان دو رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں آیتہ الکرسی اور حوذتین پانچ پانچ مرتبہ پڑھے اور نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے دعا مانگے تو اس عمل کی برکت سے اسے ثوابِ عظیم حاصل ہو۔ قلبی سکون و اطمینان حاصل ہو اور طبیعت میں بھلائی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔

## جنت میں گھر

جو کوئی سہ شنبہ کی شب بارہ رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیتہ الکرسی اور سورۃ اخلاص تین بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کی معافی عطا فرمائے، اس کا ٹھکانہ جنت میں ہو اور خاتمہ بالخیر ہو۔

## احتمال کے لیے

اگر کسی کو کثرت سے احتمال ہوتا ہو، خواب میں شیطان آکر تنگ کرنا ہو خواب میں بُرے خیالات آتے ہوں۔ اس مشکل کی وجہ سے سخت پریشان ہو

تو اسے چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے وضو کرے اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر تین بار آیتہ الکرسی پڑھ کر اپنے سینے پر دم کرے اور قبلہ رخ چہرہ کر کے سو جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ سوتے ہوئے خواب میں شیطان کے وار سے محفوظ رہے گا۔ کثرتِ احتلام کی شکایت بھی دور ہو جائے گی۔

## سینے کی درد

جس کسی کو سردی کی وجہ سے سینے میں درد کی شکایت ہو گئی ہو تو با وضو حالت میں چینی کی رکابی پر زعفران سے آیتہ الکرسی لکھ کر مریض کو ہر روز پلائے۔ سات یوم تک بلا ناغہ اس طرح کرے اس کے علاوہ ایک سفید کاغذ پر آیتہ الکرسی لکھ کر مریض کے گلے میں ڈالے۔ بفضل باری تعالیٰ سات یوم کے اندر اندر درد میں آرام آجائے گا صحت یابی ہو جائے گی۔

## دشمنوں میں عداوت ڈالنا

اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کے دو دشمنوں کے مابین عداوت پیدا ہو جائے ان میں پھوٹ پڑ جائے اور وہ اس کے خلاف دشمنی نہ کرے بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں تو چاہیے کہ اگلے صفحہ پر درج تعویذ التوار کے دن لکھے۔ ایک تعویذ لکھ کر کسی اونچے درخت سے لٹکا دے جبکہ ایک تعویذ اپنے بازو پر باندھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ دشمنوں کے مابین آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی اور دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اس طرح عامل کو

کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ تعویذ یہ ہے :-

یا حی یا قیوم	یا قیوم	یا قیوم	یا قیوم
یا قیوم	یا قیوم	یا قیوم	یا قیوم
یا قیوم	یا قیوم	یا قیوم	یا قیوم
یا قیوم	یا قیوم	یا قیوم	یا قیوم

## بے خوابی کے لیے

اگر کسی کو بے خوابی کا عارضہ لاحق ہو تو وہ رات کو سونے سے پہلے با وضو حالت میں بستر پر لیٹے اور سات مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر سوئے، انشاء اللہ تعالیٰ پرسکون نیند آئے گی اور بے خوابی شکایت دور ہو جائیگی

## ہر حاجت کے لیے

ہر طرح کی جائز حاجت بارگاہِ الہی میں پیش کر کے پوری کر دینے کی

غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہنے، تنہائی میں بیٹھ کر لوہان وغیرہ خوشبو جلائے اور نہایت توجہ و یکسوئی کے ساتھ اکتالیس مرتبہ آیتہ الکرسی اس طرح سے زبانی پڑھے کہ اپنا دایاں ہاتھ آیتہ الکرسی کے کلمات پر رکھے۔ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعائے مانگے کہ یا اللہ! آیتہ الکرسی کے طفیل اور اس کی برکت سے میری فلاں حاجت کو پوری فرما۔ اکیس یوم تک بلا ناغہ یہ وظیفہ کرے بفضل باری تعالیٰ بہت جلد مراد پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔

## کام میں دل لگے

اگر کسی کا اپنے کاروبار میں دل نہ لگتا ہو جبکہ وہ چاہتا ہو کہ اپنے کاروبار کی طرف بھر پور توجہ دے۔ مگر اس کام میں وہ عاجز ہو، کچھ سمجھ نہ آتی ہو کہ کیا کیا جائے تو اسے چاہیے کہ جمعہ کی رات کو نصف شب کے وقت اٹھے اور دو رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیتہ الکرسی پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد گیارہ بار درود پاک پڑھے اس کے بعد گیارہ مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو قرار حاصل ہوگا۔ چالیس یوم تک بلا ناغہ یہ عمل کرے۔ اس دوران اس کا دل کام کی طرف مکمل توجہ و یکسوئی کے ساتھ راغب ہوگا اور وہ کاروبار میں اچھی طرح دلچسپی لے گا۔



## زہر خوردہ کے لیے

جو کوئی زہر خوردہ کا شکار ہو گیا ہو تو چاہیے کہ ایک رکابی پر با وضو حالت میں زعفران و مشک و عرق کلاب سے ایک مرتبہ آیتہ الکرسی لکھے اور تازہ پانی سے دھو کر پلا دے۔ دن میں تین مرتبہ اسی طرح کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ افاقہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ شفا کے کاملہ نصیب فرمائے گا۔

## دشمن کی ہلاکت کے لیے

جو کوئی ظالم دشمن کے ہاتھوں سخت پریشان ہو۔ دشمن کی طرف سے جانی نقصان پہنچائے جانے کا یقین ہو تو دشمن کی ہلاکت کی غرض سے مکئی کے اکتالیس دانے لے کر ایک کپ پانی میں زعفران گھول کر اس میں مکئی کے دانے تین دن رات تک ایسی جگہ پر چھپا کر رکھے کہ ان پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ اس کے پینچے لوہے کی ایک چھتری بھی رکھ دے تین دن کے بعد کچے دھاگے میں یہ تمام دانے اس طرح سے پروئے کہ ہر ایک دانے پر ایک مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے۔ پھر کسی ایسے درخت پر لٹکائے جو پھولدار نہ ہو اور اس پر سورج کی شعاعیں پوری آب و تاب سے پڑتی ہوں۔ اس کے بعد حسب توفیق کچھ صدقہ و خیرات کرے اور دشمن کی ہلاکت کا تصور رکھے بہت جلد مطلوبہ مقصد میں کامیابی ہوگی۔



## کشائشِ رزق کے لیے

فراحی رزق کے لیے چاہیے کہ ہر روز نمازِ فجر کے بعد اکتالیس یوم تک ایک سو ایک مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے اس کے بعد ایک سو ایک مرتبہ یہ پڑھے :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِہِ یَا دَاۤءِیْمُ الْعِزِّ وَالْبِقَآءِ  
یَا ذَا الْمِجْدِ وَالْعِطَیَا یَا وِدَّوْدَ ذَا الْعَرْشِ الْمَجِیْدِ  
فَعَالَ لِمَا یُرِیْدُ -

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رزقِ حلال میں خوب اضافہ ہوگا اور کاروبار خوب پھلے پھولے گا۔

## خللِ آسیب کے لیے

آسیب کے اثر سے محفوظ رہنے کے لیے ہر روز نمازِ مغرب کے بعد سات بار آیتہ الکرسی پڑھ کر پانی پر دم کرے اور پلاوے چالیس یوم تک بلا ناغہ اسی طرح کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ آسیب کسی طرح کا نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ آیتہ الکرسی کی برکت سے آسیب اس پر اپنا وار نہ کر سکے گا اور دم کیا ہوا پانی پینے سے سکون و اطمینان رہے گا۔ جن و آسیبِ دھر کا رخ نہیں کرے گا اور آسیب سے خلاصی ہو جائے گی۔

❖ ❖ ❖

## خوفِ دُور ہو جانے

اگر کوئی کسی سے خوفزدہ رہتا ہو اور ہر وقت ڈرتا رہتا ہو تو چاہیے کہ نمازِ مغرب کے بعد دو رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدہ میں جائے اور تین مرتبہ آیتہ الکرسی اس طرح سے پڑھے کہ

وَلَا یُودِیْ حَفْظَهُمَا وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ

کی تین بار تکرار کرے آیتہ الکرسی پڑھنے کے بعد یہ دعا بھی پڑھے

اللّٰهُمَّ حِلِّ بَیْتِیْ وَبَیْنِ فَلَاحِ بْنِ فَلَاحٍ نَسِیْمَةٌ کَمَا حَلَلْتَ

بَیْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ وَالْجَنَّةِ عَنِّیْ کَمَا الْجَمَّةِ

لِسَاعِ عَنِ دَانِیَالِ عَلَیْهِ السَّلَامُ بِحَقِّ السَّبَآءِ وَالشَّرِیْفِہِ

چالیس یوم تک بلا ناغہ یہ عمل کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ دشمن کا خوف جاتا

رہے گا۔ دشمن کی زباں بندی ہو جائے گی اور وہ کسی طرح کا نقصان نہ

پہنچا سکے گا۔ خاموشی اختیار رکھے گا۔

## حکمرانی کے لیے

جو حاکم یہ چاہے کہ رعایا اس کی تابعدار رہے۔ ہر کوئی اس کی اطاعت کرے اور اس کی حکمرانی لوگوں کے دلوں پر بھی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ آیتہ الکرسی لکھ کر تعویذ کی طرح اپنی انگشتری میں رکھ کر پہنے یا اسے

حفاظت سے اپنے پاس رکھے۔ اس کے علاوہ ہر روز نماز فجر کے بعد کس بار آیتہ الکرسی پڑھنے پر مداومت رکھے اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقصد میں کامیابی ہوگی۔ اس کی رعایا اس کی تابع فرمان ہوگی۔ آیتہ الکرسی کی یہ برکت دیکھ کر وہ خود حیران رہ جائے گا۔

## چشمِ خلاق میں بلند مرتبہ ہونا

جو کوئی یہ چاہے کہ وہ چشمِ خلاق میں بلند مرتبہ ہو جائے لوگوں کی نظروں میں معزز و محترم ہو جائے تو اسے چاہیے کہ ہر ماہ چاند کے مہینے کی پہلی اتوار کو نصف شب کے وقت اٹھے۔ غسل و وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر مصلے پر بیٹھے اور دس سو بیس مرتبہ اس طرح سے آیتہ الکرسی پڑھے کہ اول و آخر درود پاک پڑھے۔ بفضلِ باری تعالیٰ لوگوں کی نظروں میں بلند مرتبہ ہوگا، لوگ عزت و احترام سے پیش آئیں گے اور اسے مایوسی نہ ہوگی۔

## مشکل کے لیے

اگر کوئی ایسی مشکل پیش آجائے کہ جو حل نہ ہوتی ہو تو چاہیے کہ چار رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیتہ الکرسی پڑھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدے میں جائے اور تین بار آیتہ الکرسی پڑھے۔ اس کے بعد اپنا دایاں رخسار زمین پر رکھ کر کتالیس

مرتبہ **يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ** کہے پھر اپنا بائیں رخسار سجدے والی جگہ پر رکھے اور کتالیس مرتبہ **يا اعلیٰ العظیم** کہے پھر اپنی مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے نہایت عجز و انکساری کے ساتھ دعا مانگے۔ انشاء اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کی مشکل آسان ہونے کے اسباب ظاہر ہوں گے۔

## نماز قضا کے عمری کی ادائیگی

اللہ تعالیٰ جس کو نیکی کی توفیق دے اور وہ یہ چاہے کہ اس کی جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کو ادا کرنا ضرور ہے تو وہ با وضو حالت میں پاکیزہ لباس پہنے خوشبو لگائے اور چار رکعت نفل نماز کی اس طرح سے نیت کرے کہ

نویت ان اصلی اللہ تعالیٰ اربع رکعات تکفینہ للقضاء

فات منی فی جمیع عمری صلوٰۃ النقل متوجہاً

الی القبلۃ اللہ اکبر

اگر عربی زبان میں اس طرح سے نیت کرنا بھول جائے تو پھر اپنی زبان میں اس طرح سے نیت کرے کہ میں نیت کرتا ہوں چار رکعت نفل نماز کی جو میری تمام عمر کی قضا نمازوں کے بدلے کفایت کرے۔ منہ میرا قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ نیت کرنے کے بعد اس طرح سے نماز پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ آیتہ الکرسی اور پندرہ مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اکیس بار درود پاک پڑھے اور پھر سات مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اَللّٰهُمَّ يَا سَابِقَ الْمَوْتِ  
 وَيَا سَامِعَ الصَّوْتِ يَا مُعْتَمِدَ الْعِظَامِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَصَلِّ  
 عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ لِيْ فَرْجًا وَ  
 مَخْرَجًا مِّمَّا اَنَا فِيْهِ فَاِنَّكَ اَعْلَمُ وَاَعْلَمُ وَاَنْتَ  
 يَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَاَنْتَ عَلَمُ الْغُيُوْبِ يَا وَاهِبِ  
 الْعَطَايَا وَغَايِرَ الْعَطَايَا سُبُوْحًا يَا قَدُوْسَ رَبِّ  
 الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحِ ۝ رَبِّ اغْفِرْ وَاَرْحَمُ وَاَجَادِرْ  
 عَمَّا تَعْلَمُ فَاِنَّكَ اَنْتَ اَلْعَلِيُّ الْاَعْظَمُ يَا سَتَّارُ  
 الْغُيُوْبِ وَيَا غَاْفِرَ الذُّنُوْبِ وَيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ  
 وَصَلِّ اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ اَجْمَعِيْنَ ۔

جس مقصد کے لیے نماز پڑھی ہے انشاء اللہ تعالیٰ وہ مقصد بارگاہ الہی میں ضرور پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی قضا شدہ تمام نمازوں کی معافی عطا فرمائے گا اور اس کے بدلے میں اس کی اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے سچے دل سے اس بات کا عہد کرے کہ کبھی بھی نماز قضا نہ کرے گا اور نہ ہی نماز چھوڑے گا اس پر سختی سے عمل بھی کرے۔

## تبادلے کے لیے

اگر کوئی اپنا تبادلہ حسب منشاء جگہ پر کرولنے کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے اس کے پاس کوئی سفارش بھی نہ ہو تو چاہیے کہ ہر روز نمازِ عشاء کے بعد

اکتالیس مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ چالیس یوم تک بلاناغہ یہ وظیفہ کرے اگر کسی مجبوری کے باعث کسی دن ناغہ ہو جائے تو دن شمار کر کے بعد میں پورے کرے انشاء اللہ تعالیٰ توجہ اور کیسوی کے ساتھ وظیفہ کرنے اور خصوص دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے سے چالیس دنوں کے اندر اندر حسب منشاء جگہ پر تبادلہ ہو جائے گا۔ نہایت آزمودہ وظیفہ ہے۔

## جنات کو دور کرنا

جس گھر میں جنات آکر گھروالوں کو تنگ کرتے ہوں تو چاہیے کہ ایک برتن میں پانی لے کر باوضو حالت میں اس پر پہلے تین بار درود پاک پڑھے پھر دو مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھے، تین مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے اور تین بار سورہ جن کی پہلی پانچ آیات مبارکہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور گھر کے چاروں کونوں میں یہ دم کیا ہو اپنی چھڑک دے۔ اس کے علاوہ گھر کے افراد اکثر و بیشتر آیتہ الکرسی کا ورد کرتے رہیں انشاء اللہ تعالیٰ گھر کے اندر جنات کا داخلہ بند ہو جائے گا اور وہ کسی قسم کی شرارت نہ کر سکیں گے۔

## ہر مرض کا علاج

باوضو حالت میں ستر مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر آبِ باراں پر دم کرے اور مریض کو پلائے۔ یہ دم کیا ہو پانی مریض ہر روز پئے انشاء اللہ تعالیٰ یہ پانی پینے سے ہر طرح کے جسمانی امراض میں افاقہ ہوگا۔ جسم کی تمام رگوں، پٹھوں، مگرتشت

اور پڑھی سے امراض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ امراض سے نجات عطا فرمائے گا اور شفا لے گا۔ نصیب ہوگی۔ امراض سے شفا حاصل کرنے کے لیے آیت اکرسی بہت خوب ہے۔

## اولادِ نرینہ کے لیے

جو کوئی اولادِ نرینہ کی خواہش رکھتا ہو اور اس نعمت سے محروم ہو تو چاہیے کہ جب عورت کو حمل قرار پائے تین ماہ ہو جائیں تو کسی میٹھی چیز پر کیس مرتبہ آیت اکرسی پڑھ کر دم کرے اور ہر روز عورت کو یہ دم کی ہوئی میٹھی چیز کھلائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے عورت کو دورانِ حمل کوئی تکلیف نہ ہوگی اور وہ اولادِ نرینہ کی نعمت سے سرفراز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کو نیک اور صالح فرزند عطا فرمائے گا۔

## دوستی مضبوط کرنا

اگر کوئی یہ چاہے کہ جن لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے وہ جہاں بھی جائے لوگ اس کو دوست رکھیں تو اسے چاہیے کہ وہ ہر روز نمازِ فجر کے پہلے یا بعد میں مکمل توجہ دیکھ کر کے ساتھ ۱۵۲ مرتبہ آیت اکرسی پڑھ لیا کرے بفضلِ باری تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی خوب عزت پیدا ہوگی اور لوگ اس کو دوست رکھیں گے۔



## ہمیشہ باعزت رہے

جو کوئی یہ چاہے کہ لوگ ہمیشہ اس کی عزت کریں کوئی اس کو بے عزت نہ کرے جہاں بھی جائے اس کی عزت ہو اگر کوئی ایسی بات اس سے سرزد ہو جائے کہ جس سے اس کی سبکی ہوتی ہو اور وہ چاہے کہ اس وجہ سے بھی کوئی اس کو بے آبرو نہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے با وضو اور نکلنے وقت ایک مرتبہ آیت اکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پردم کر کے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرے انشاء اللہ تعالیٰ ہر روز اس عمل کے کرنے سے کوئی اس کو بے آبرو نہ کرے گا۔

## رنج و مصیبت سے نجات

جو کوئی کسی رنج و مصیبت میں گرفتار ہو اور اس سے نجات کی کوئی صورت دکھائی نہ دیتی ہو تو جمعۃ المبارک کو عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر قبلہ رو ہو کر با وضو حالت میں بیٹھا رہے اور کثرت آیت اکرسی کا ورد جاری رکھے۔ مغرب کی اذان تک پڑھتا رہے اور جب مغرب کی اذان کا وقت ہو جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مصیبت سے نجات حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل و کرم منازل فرمائے گا اور آسانی پیدا فرمادے گا۔



## پریشانی سے بچاؤ کے لیے

اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ سال بھر پریشانی و مصیبت سے بچا رہے۔  
اس کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ محرم الحرام کی یکم تاریخ کو  
نمازِ عشاء کے بعد غسل و وضو کر کے پاکیزہ لباس پہنے اور مصلے پر قبلہ رخ بیٹھ  
کر تین سو ساٹھ مرتبہ آیتہ الکرسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھے۔  
آیتہ الکرسی پڑھنے کے بعد اکیس مرتبہ درود پاک پڑھے پھر یہ دعا پڑھے۔  
اللہم یا محول الاحوال حول حالی حالی الی احسن  
الاحوال بحولک وقوتک یا عزیز یا متعالی و صلی  
اللہ علی سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ وسلم  
اس وظیفہ کی برکت سے بندہ کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ انشاء اللہ  
تعالیٰ سال بھر کوئی پریشانی و مصیبت اس کی راہ کی رکاوٹ نہ بنے گی۔ امن و  
سکون سے سال گزرے گا۔

## سارا دن خیریت سے گزرے گا

جو کوئی یہ چاہے کہ اس کا سارا دن بخیر و عافیت گزرے کسی قسم کی پریشانی  
نہ ہو تو وہ ہر روز صبح کے وقت گیارہ مرتبہ آیتہ الکرسی اس طرح سے پڑھے  
کہ اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود پاک پڑھے اور پھر یہ پڑھے  
اصبحتا و اصبح الملک لله و الکبریاء و العظيمة

والخالق والامر واللیل والنہاس وما فیہا لله وحدہ  
لا شریک له اللہم اجعل اول هذا النہاس صلاحا  
واوسطہ فلاحا و آخرکے بحاحا اسئلک خیر  
الدنیا یا ارحم الراحمین  
انشاء اللہ تعالیٰ سارے دن میں اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ جب رات کا  
وقت ہو تو مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی طرح گیارہ مرتبہ آیتہ الکرسی  
پڑھے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھے اور پھر یہ پڑھے  
امینا و امسی الملک لله و الحمد لله اعوذ باللہ  
الذی یمسک السماء ان تقع علی الارض الذی  
یا ذنہ من شر ما خلق و عز او برا  
بفضل باری تعالیٰ رات اور دن خیریت رہے گی اور کوئی پریشانی نہ ہوگی۔

## پیری کو حاضر کرنا

اگر کسی پر پیری آتی ہو تو اس کو حاضر کر کے باندھنے کی غرض سے چاہیے  
کہ جس پر پیری آتی ہو اس کو اپنے سامنے بٹھائے پہلے تین مرتبہ آیتہ الکرسی  
پڑھے پھر اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر گھر دے اور یہ عزیمت پڑھنا  
شروع کرے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - عَقَلُوْا عَقْلُوْا عَقْلُوْا  
عَقْدُوْا قَرِیْشِ قَرِیْشِ هٰیسِ هٰیسِ هٰیسِ فَاکْبُوْا

فیہا ہر والغاؤن و جنود الشجر و الاشجار  
 و اخرج من الکن و الکناف و اخرج من ابلیس  
 اجمعون بستم بستم بستم بہ مهر سلیمان  
 بن داؤد علیہما السلام بستم و قہر کس دم تاہن  
 نکشائو کے نکشاید بامر اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ  
 محمد رسول اللہ -

## ہر نقصان سے بچا رہے

جو کوئی یہ چاہے کہ وہ ہر طرح کے نقصان سے بچا رہے تو وہ دہل  
 میں دیا ہوا آیتہ اکبریٰ کا نقش با وضو حالت میں مشک، عرق گلاب اور زعفران  
 سے لکھ کر اپنے پاس رکھے۔ اس نقش کی برکت سے انشاء اللہ تعالیٰ اگر وہ  
 سفر میں جائے تو اس کا سفر بخیر و عافیت طے ہو، راستے کی صعوبتوں سے  
 بچا رہے۔ کوئی درندہ یا جانور یا چور ڈاکو اسے نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اس  
 نقش کو پاس رکھنے سے خلوص دل کے ساتھ جس بھی حاجت کے لیے دعا  
 مانگے بفضل باری تعالیٰ اس کی حاجت پوری ہو۔ اگر یہ نقش مبارک اپنے  
 مال میں رکھے تو مال ضائع ہونے سے محفوظ رہے۔ چور چوری نہ کر سکے  
 دکان میں چپاں کرے تو بہت برکت ہو۔

نقش مبارک اگلے صفحہ پر  
 دیکھیں -

۵۱۶	۵۱۹	۵۲۲	۵۲۹
۵۲۰	۵۱۰	۵۱۵	۵۲۰
۵۱۱	۵۲۴	۵۱۷	۵۱۴
۵۱۸	۵۱۳	۵۱۲	۵۲۳

## مشکل کے لیے

اگر کوئی کسی مشکل میں گرفتار ہو گیا ہو تو وہ ہر نماز کے بعد پہلے تین مرتبہ  
 درود پاک پڑھے پھر تین بار آیتہ اکبریٰ پڑھے۔ اس کے بعد ایک سو مرتبہ  
 یا سحیٰ یا قیوم پڑھے پھر تین بار درود پاک پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے  
 دعا مانگے۔ چالیس یوم تک بلا ناغہ اسی طرح کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ چالیس  
 یوم کے اندر اندر جو بھی مشکل ہوگی وہ حل ہو جائے گی اور پریشانی سے نجات  
 مل جائے گی۔

## ترقی رزق کے لیے

جو کوئی ہر روز نماز فجر کی سنت سے پہلے دو رکعت نفل نماز اس طرح  
 سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیتہ اکبریٰ پڑھے سلام  
 کے بعد ایک سو بار درود پاک پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے ترقی رزق کی دعا مانگے  
 بفضل باری تعالیٰ اس عمل کی مداومت کرنے سے کبھی رزق کی تنگی نہ ہوگی۔

## قید سے رہائی

اگر کسی کو ناحق قید میں ڈال دیا گیا ہو اور رٹائی کی کوئی صورت دکھائی نہ دیتی ہو تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد سات مرتبہ آیتہ الکرسی اس طرح سے پڑھے کہ ہر بار پڑھنے سے قبل بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھے اور یہ بھی پڑھے اَعِيْذُ نَفْسِيْ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ چالیس یوم تک بلاناغہ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس دوران باعزت رٹائی کی کوئی نہ کوئی صورت ضرور پیدا ہو جائے گی اور جلد ہی رٹائی عمل میں آجائے گی۔

## بُری موت سے بچاؤ

جو کوئی یہ چاہے کہ وہ بُری موت سے بچا رہے اور جب بھی موت آئے اچھی آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اس مقصد کے لیے ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ یا ایمان ہوگا بُری موت سے بچا رہے گا۔ حادثاتی موت سے بھی بچا رہے گا۔ اس کو اچھی موت نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ اس وظیفہ کی مداومت کرنے سے اللہ تعالیٰ آفات و ملیات سے محفوظ رکھے گا اور اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔

## حصولِ انصاف کے لیے

اگر کسی کو چھوٹے مقدمہ میں ملوث کر دیا گیا ہو اور اسے خدشہ ہو کہ اس کے ساتھ انصاف نہ کیا جائے گا تو وہ حصولِ انصاف کی غرض سے ہر فرض نماز کے بعد اکتالیس بار آیتہ الکرسی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ انشاء اللہ تعالیٰ فیصلہ اس کے حق میں اور حسبِ منشاء ہوگا۔ اس کا دشمن ذلیل و خوار ہوگا۔

## بیوی کو فریقہ کرنا

اگر کسی کی بیوی اپنے خاوند کو بلا وجہ ناپسند کرتی ہو اور گھر میں ہر وقت اپنے خاوند سے جھگڑتی رہتی ہو جبکہ خاوند یہ چاہتا ہو کہ اس کا گھر آباد رہے اس کی بیوی کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے اور گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے تو وہ اس مقصد کے لیے چاند کے مہینے کے پہلے اتوار، پیر اور منگل کو روزہ رکھے اور افطاری کے وقت وضو کر کے مصلے پر بیٹھے نہایت توجہ و یکسوئی کے ساتھ اکیس مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس کی بیوی اس کی طرف رجوع کرے گی۔ اس کے دل میں خاوند کی محبت پیدا ہوگی۔ اور وہ اپنے خاوند کی مطیع ہو جائے گی اسی طرح اگر کسی عورت کا خاوند ناپسند کرتا ہو اور بات بات پر گھر کا ماحول کشیدہ کرتا رہتا ہو بیوی کو مارتا پٹیتا رہتا ہو تو بیوی کو چاہیے کہ

وہ بھی اسی طرح تین روزے رکھ کر افطاری سے قبل آیتہ انکرسی پڑھ کر  
اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری ہوگی اور دونوں  
میاں بیوی میں خوب محبت پیدا ہو جائے گی۔

## حمل قرار پانے

اگر کوئی عورت بانجھ ہو اسے حمل قرار نہ پاتا ہو تو وہ عورت آیتہ انکرسی  
لکھ کر اپنے سر نہانے رکھ کر با وضو حالت میں بستر پر سوئے۔ حیض کے دنوں  
میں ایسا نہ کرے۔ جب تین حیض گزر جائیں تو غسل کر کے پاک صاف ہو کر  
اپنے خاوند کے ساتھ ہم بستری کرے انشاء اللہ تعالیٰ اس کو حمل قرار پائے گا۔  
اور بفضل باری تعالیٰ حمل قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی نعمت سے  
سرفراز فرمائے گا۔ حمل قرار پانے کے بعد ہر روز نماز فجر کے بعد سات مرتبہ  
آیتہ انکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے اور نماز عشاء کے بعد بھی سات  
مرتبہ آیتہ انکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ حمل  
کے دوران تکالیف سے محفوظ رہے گی۔

## اغوا ہو جانے پر

اگر کسی کو اغوا کر کے قید میں ڈال دیا گیا ہو تو وہ قید کی حالت میں  
اکتالیس مرتبہ آیتہ انکرسی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ ہر روز اسی طرح  
کرے تین دن تک یا سات دن حتیٰ کہ اکیس یوم کے اندر اندر اغوا کر نیوالوں کے

ہاتھوں سے بچ کر نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آیتہ انکرسی کی برکت سے قید سے  
نجات دلا دے گا اور بحفاظت بغیر کسی مالی و جانی نقصان کے اپنے گھر پہنچ  
جائے گا۔ اگر کسی کا کوئی عزیز یا دوست اغوا ہو گیا ہو تو اس کی طرف سے  
وہ بھی یا اس کے گھر کی افراد اسی طرح ہر روز با وضو حالت میں اکتالیس مرتبہ  
آیتہ انکرسی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو ان کا عزیز بہت جلد قید سے  
چھوٹ کر بحفاظت واپس آ جائے گا۔

## زبان بندی کے لیے

جو کوئی اپنے دشمن کے ہاتھوں سخت پریشان ہو، دشمن اس کے ساتھ  
زبان درازی کرتا ہو اور زچ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا ہو تو  
چاہے صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے سات مرتبہ آیتہ انکرسی اول و  
آخر درود پاک پڑھ کر آیتہ انکرسی کے وسیلہ جمید سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے  
سات یوم تک اسی طرح کرے انشاء اللہ تعالیٰ دشمن کی زبان بندی ہو جائے  
گی اور دشمن کسی طرح کی شرارت نہ کرے گا۔ جب بھی دشمن کے ساتھ آنا مانا  
ہوگا تو دشمن اس کے ساتھ اپنی زبان نہ کھولے گا اور چپ رہے گا۔

## غائب کو حاضر کرنا

اگر کسی غائب کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلتا ہو کہ وہ کہاں پر ہے اور کس  
حال میں ہے تو اس کی جلد اور بحفاظت واپسی کی غرض سے چاہے کہ گھر کے

افراد میں سے کوئی فرد یا عورت یا اس کا کوئی قریبی عزیز یا وضو حالت میں قبلہ رخ ہو کر بیٹھے اور نہایت توجہ و کیسوٹی کے ساتھ اکاون مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے۔ یہ عمل نمازِ عشاء کی ادائیگی کے بعد کرے۔ پڑھنے کے بعد دو رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدہ میں جائے اور ایک سو بار یہ درود پاک پڑھے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَضَلَ عَنْهُ الْغَافِلُونَ  
وَالِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

پھر عرق گلاب، زعفران اور مشک سے ایک سفید کاغذ پر آیتہ الکرسی لکھے اور اپنے سرانے کے نیچے رکھ کر سو جائے۔ اس عمل کی برکت سے انشاء اللہ تعالیٰ غائب خواب میں نظر آجائے گا اور جس حال میں ہو گا اس سے آگاہ کرے گا۔ اگر زندہ ہے تو اس کے دل میں اس قدر تڑپ پیدا ہوگی کہ وہ جلد ہی واپس گھر آجائے گا اور بغیر گھر آئے اسے کسی طرح بھی چین نہ آئیگا اور اگر کسی نے اس کو قید میں ڈال رکھا ہے تو اس کے بارے میں بھی خواب میں صاف معلوم ہو جائے گا۔

## گمشدہ چیز کی بازیابی

اگر کسی کی کوئی چیز گم ہوگئی ہو یا چوری ہوگئی ہو اور اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلتا ہو کہ کون اس کو اٹھا کر لے گیا ہے تو چاہیے کہ جس

مہینے میں سورج بزرگ حمل میں ہو۔ منہتر کی شب نمازِ عشاء کے بعد ایک سو بیس مرتبہ آیتہ الکرسی اس طرح سے پڑھے کہ اول و آخر اکیس اکیس مرتبہ درود پاک پڑھے اور اسی طرح با وضو حالت میں سو جائے خواب میں اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی گمشدہ چیز کہاں پر موجود ہے۔ اگر کسی نے چوری کی ہوگی تو اس کے بارے میں بھی معلوم ہو جائے گا اور چور کی شناخت اور اس کا ٹھکانا معلوم ہو جائے گا اس طرح مال کی بازیابی کے لیے آسانی ہو جائے گی۔

## حاکم مطیع ہو

اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ جب بھی حاکم وقت کے پاس جائے وہ اس کو خصوصی توجہ دے اس کا مطیع ہو جائے گا، مہربانی اور شفقت سے پیش آئے تو اسے چاہیے کہ وہ حاکم کے سامنے جانے سے پیشتر اکہتر مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے اور جب حاکم کے سامنے حاضر ہو تو ایک مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر اس پر بھونک مارے۔ مگر اس بات کا خیال رکھے کہ حاکم کو معلوم نہ ہونے پائے۔ بقتل باری تعالیٰ حاکم وقت اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے گا، اس پر خصوصی توجہ دے گا اور جو بھی جائز کام ہوگا اس کو جلد کرنے کا حکم دے گا۔

❖ ❖ ❖

❖ ❖

## کشائش رزق کے لیے

رزق حلال میں فراوانی اور کاروبار میں خیر و برکت کے لیے با وضو حالت میں عرق گلاب اور زعفران سے ذیل میں دیا ہوا نقش لکھے اور اس پر کسی مرتبہ آیتہ انکرسی پڑھ کر دم کرے اور نقش کو اپنے پاس رکھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ جس بھی کاروبار میں ہاتھ ڈالے گا اس میں برکت پیدا ہوگی اور بہت مالی فائدہ حاصل ہوگا۔ اس نقش کو پاس رکھنے سے جملہ آفات و بلیات سے بھی محفوظ رہے گا اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ نقش مبارک ہے

۲۴۵۶	۳۱۶۵	۲۳۱۶	۲۵۵۲	۲۶۲۳
۱۹۲۴	۲۵۳۶	۴۱۳۰	۶۸۵۸	۲۶۲۸
۲۳۶۶	۲۳۶۶	جملہ یوروشو	۲۵۳۴	۵۴۵۵
۳۵۸۵	۲۳۹۶	۴۹۶۸	۵۲۱۰	۱۵۱۲
۴۲۲۵	۹۶۹۸	۲۷۵۲	۲۴۳۴	۱۸۶۴

## قرض جلدی ادا ہو

اگر کوئی کاروباری آدمی یا کوئی بھی شخص قرض کے بوجھ تلے دب گیا ہو اور قرض کی فوری ادائیگی کا کوئی سبب نہ پیدا ہوتا ہو۔ قرض خواہ بہت زیادہ تقاضہ اور پریشانی کرتے ہوں تو چاہیے کہ چالیس یوم تک ترک حیوانات کرے

جماع سے بھی پرہیز کرتے ہوئے نماز فجر یا نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد ہر روز بلا تاغیر چالیس یوم تک آیتہ انکرسی اکتالیس مرتبہ اس طرح سے پڑھے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَعْتَصَمْتُ بِاللّٰهِ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ الْقَائِمُ الدَّائِمُ لَا تَاخُذُہٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ حَاضِرًا ظُرَّکَ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ قَادِرٌ قَدِیْرٌ عَلٰی کُلِّ مَخْلُوْقٍ مِّنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَکَ اِلَّا بِاِذْنِہٖ کَرِیْمٌ رَّحِیْمٌ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْہِمُ وَمَا خَلْفَہُمْ لَا یَخْلُوفُ وَلَا کَذِبٌ جَبَّارٌ قَهَّارٌ غَفَّارٌ سَتَّارٌ وَلَا یُحِیْطُوْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَعْتَصَمْتُ بِاللّٰهِ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ الْقَائِمُ الدَّائِمُ لَا تَاخُذُہٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ حَاضِرًا ظُرَّکَ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ قَادِرٌ قَدِیْرٌ عَلٰی کُلِّ مَخْلُوْقٍ مِّنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَکَ اِلَّا بِاِذْنِہٖ کَرِیْمٌ رَّحِیْمٌ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْہِمُ وَمَا خَلْفَہُمْ لَا یَخْلُوفُ وَلَا کَذِبٌ جَبَّارٌ قَهَّارٌ غَفَّارٌ سَتَّارٌ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِہٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ سِعَ کَرِیْمِہٖ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا یُودَّکَ حِفْظُہُمَا وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ حَافِظُ حَفِیْظٍ رَّقِیْبٌ وَ کَیْلٌ نَّاصِرٌ یَنْصُرُ بِحَقِّ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا ذُوَالَ الْمَلٰئِکَہِ وَلَا فَنَاءٌ لِّحٰکِمَہِ حٰکِمٌ حَکِیْمٌ بِحَقِّ نَبِیِّ اللّٰهِ حَبِیْبِ اللّٰهِ اِسْمَہُ حَامِدٌ اَحْمَدٌ مَحْمُوْدٌ فِی التَّوَسُّاۃِ وَالْاَنْجِیْلِ وَالنَّبِیِّیْنَ وَالْفُرْقَانَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلٰی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَ الصَّدِیْقِ وَالغَاثِ رُوْقٍ وَ ذِی النُّوْرِیْنَ وَ الْمُرْتَضٰی اُمَّتِہٖ رَضْوَانِ اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِمَا اَجْمَعِیْنَ وَ بِحَقِّ الشَّیْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِیْلَانِیِّ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخرنی من اهل السموات  
والارض لقد سرتک یا اقدر القادرین و بحکمت  
یا احکوا الحاکمین برحمتک یا ارحم الراحمین ۰

اس طرح ہر روز چالیس یوم تک پڑھتے سے انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد قرض  
کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے اور جلد قرض ادا ہو جائے گا۔ اس  
کے علاوہ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کاروبار میں خوب اضافہ فرمائے  
گا۔ رزق وسیع و فراخ ہو جائے گا۔


## قضا کے حاجت کے لیے

کسی بھی حاجت کے لیے چاہیے کہ اشراق کے وقت دو رکعت نفل  
نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیتہ الکرسی  
پڑھے پھر جب سلام پھیرے تو سات مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے۔ اس کے  
بعد چار رکعت نفل نماز پھر اس طرح سے ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ  
کے بعد آیتہ الکرسی پڑھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر سات مرتبہ  
آیتہ الکرسی پڑھے اول و آخر سات سات بار درود پاک پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے  
دعا مانگے انشاء اللہ تعالیٰ جو بھی حاجت ہوگی وہ بہت جلد پوری ہو جائے گی۔

## کمر درد کا فوری علاج

اگر کسی کی کمر میں ایسی درد ہو رہی ہو کہ وہ درد کی شدت سے تڑپ رہا ہو

تو چاہیے کہ با وضو حالت میں یہ نقش پاک لکھے۔



نقش لکھنے کے بعد سات مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے اور اس پر دم کمرے  
فوری طور پر مریض کے گلے میں تعویذ کی طرح ڈال دے انشاء اللہ تعالیٰ  
بہت جلد درد میں آرام آجائے گا اور صحت یابی ہوگی۔ جب آرام آجائے  
تو اس نقش کو مریض کے گلے سے اتار کر گوندھے ہوئے آٹے میں پیسٹ کر  
دریا میں ڈال دے یا کسی ویران کنوئیں میں ڈال دے۔

## دشمن کو مغلوب کرنا

ظالم دشمن کو مغلوب کرنے کی غرض سے نماز مغرب کے بعد کسی سے  
کلام نہ کہے اور دو رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں  
سورہ فاتحہ کے بعد ایک ایک مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے۔ سلام پھیرنے کے  
بعد سات مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے اور سجدہ میں جا کر اس بات کا تصور کرتے

ہوئے کہ دشمن مغلوب ہو جائے، اس کو دشمن پر غلبہ حاصل ہو جائے۔ اکیس مرتبہ یہ کہے

حَتَّوَاللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى  
أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً

بفضل باری تعالیٰ دشمن اس کا مغلوب ہو گا اور کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔

## قوتِ حافظہ کے لیے

اگر کسی کی قوتِ حافظہ بہت زیادہ کمزور ہو کوئی بھی بات یا سبق یاد نہ رہتا ہو تو چاہیے کہ جب سبق یاد کرنا مقصود ہو تو پڑھنے سے پہلے تین مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے اور اپنے سینے پر دم کرے اس کے بعد یہ دعائیں مانگے۔

اللَّهُمَّ نَجِّنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الْوَهْمِ وَكَرِّصَا  
يُسُورِ الْعَهْوِ وَافْتَحْ عَلَيْنَا أَبْوَابَ وَفَضْلِكَ  
وَنَشْرِعْ عَلَيْنَا خَزَائِنَ عَمَلِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ

الرَّاحِمِينَ

اس وظیفہ کی برکت سے انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد سبق یاد ہو جائے گا قوتِ حافظہ خوب مضبوط ہوگی اور یادداشت تیز ہو جائے گی۔

## شرِ شیطان سے بچاؤ کے لیے

شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے مشائخِ عظام نے آیتہ الکرسی کی

دعوت کا یہ طریقہ بیان کیا ہے یعنی نمازِ فجر اور نمازِ مغرب یا عشاء کے بعد آیتہ الکرسی اس طرح سے پڑھے کہ اول و آخر درود پاک پڑھے اور آیتہ الکرسی میں دو وقف ہیں جب ہو پڑھے پہنچے تو اپنے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کو کھڑی کر کے گردش دے اور جب اَلْقِيَوْمَ پڑھے تو چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی کو کھڑی کرے پھر جب وَلَا نَوْمَ پڑھے تو درمیان والی انگلی کھڑی کرے جب حِفْظُهُمَا پڑھے تو اپنی انگشت شہادت کھڑی کرے اور جب الْعَظِيمِ پڑھے تو انگوٹھا کھڑا کرے اور وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ کی دس مرتبہ تکرار کرے اور ایک مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے اشارہ کرے پھر اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے بائیں طرف اشارہ کرے اور یہ آیات پڑھے

وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ  
الرَّحِيمُ وَاللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ  
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

ان آیات کریمہ میں سے ہر ایک کو تین تین بار پڑھے اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہے اللَّهُ يَا وَهَّابُ اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں بند کر کے یہ کہے يَا قَتَّاحُ يَا سَرَّادُ يَا غَتَّيُّ يَا كَانِي يَا بُدُّوحُ يَا حَفِيظُ يَا لَطِيفُ پھر اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیاں بند کر کے یہ کہے وَيَعْظِمَةُ هَذِهِ الْآيَاتِ الْمُقَطَّعَاتِ اس کے بعد شرِ شیطان سے محفوظ رہنے کی دعا اپنے دل میں تصور کرے یا جو بھی حاجت ہو اس کا دل میں تصور کرے

اور بحق جمعہ حسن حما تینہ

کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی تمام انگلیاں کھول دے اس کے بعد تیس مرتبہ  
 یس کہے اور اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں بند کرے پھر بائیں ہاتھ کی انگلیاں بند  
 کرے اور یہ کہے وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ط سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَبِّكُمْ  
 وَعَنْتِ الْوَجْوهَ لِلْحَى الْقِيَوْمِ - یا حی یا قیوم یا حافظ یا ناصر یا معین  
 برحمتک استغیث دس مرتبہ یہ کہنے کے بعد وهو العلی العظیم  
 لا اکرہ فی الدین سے خلدون تک پڑھے پھر یہ دعائیہ کلمات ایک  
 مرتبہ کہے احصنت بذي الملك والملكوت واعظمت بذي  
 العزة والجبروت وتوكلت على الحي الذي لا يموت دخلت  
 في حرز الله وعصمت الله وكيف الله وامان الله وحما الله  
 وبحق كهي تحصن كفا يتنا نسيبك فيك هو الله وهو السميع العليم  
 لبس الله يا اينه تبارك حيط اننا ليس سقنا لا اله الا الله حماتا  
 محمد رسول الله قفله وحيصا رلا وصى الله تعالى على خير خلقه  
 محمد واله واصحابه اجمعين - دعا کے بعد آخر میں تین مرتبہ آیتہ الکرسی  
 پڑھے اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے تمام جسم پر ہاتھوں کو پھیرے  
 اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شر شیطان سے محفوظ رہے گا - اللہ تعالیٰ اپنی  
 حفظ و امان میں رکھے گا اور اس کا قلب نیکی اور بھلائی کی طرف راغب ہوگا -  
 بندے کو نیک کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے گا -

❖ ❖ ❖

آیتہ الکرسی  
 مشکلات کا حل

## جیل سے رہائی

جو کوئی کسی جھوٹے الزام میں بگناہ قید محکمت رہا ہو اور جیل میں ہو تو اسے  
 چاہیے کہ ہر روز وہ دو رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں  
 سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے - سلام پھیرنے کے بعد  
 ایک سو تیر مرتبہ آیتہ الکرسی اس طرح پڑھے کہ اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود  
 پاک پڑھے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے ، انشاء اللہ تعالیٰ آیتہ الکرسی کی برکت  
 سے بہت جلد جیل سے رہا ہو جائے گا -

## مشکل کے لیے

اگر کسی کو کوئی ایسی ناگہانی مشکل پیش آگئی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نماز  
 عشاء کے بعد دو رکعت نفل نماز پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد  
 گیارہ گیارہ مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے ، سلام پھیرنے کے بعد فوراً گیارہ  
 مرتبہ آیتہ الکرسی اس طرح سے پڑھے کہ اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود پاک  
 پڑھے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے - انشاء اللہ تعالیٰ اس کی مشکل ضرور چند  
 دنوں میں حل ہو جائے گی -

## میاں بیوی کا جھگڑا

اگر دونوں میاں بیوی گھر میں بلا وجہ آپس میں جھگڑتے رہتے ہوں اور

کسی کے سمجھانے سے بھی باز نہ آتے ہوں تو چاہیے کہ باوضو حالت میں عرق گلاب اور زعفران سے ایک سفید کاغذ پر آیتہ الکرسی لکھا اور تھوڑے سے پانی میں خوب اچھی طرح گھول کر یہ پانی کسی شیرینی میں ملائے یا اس پانی سے حلوا یا کھیر تیار کر کے اس پر اکیس مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر دم کرے اور شیرینی میاں بیوی کو کھلائے۔ ہر جمعہ المبارک کے دن اسی طرح کرے انشاء اللہ تعالیٰ سات جمعہ المبارک تک اس عمل کے کرنے سے میاں بیوی کے باہم خوب محبت پیدا ہو جائے گی۔ دونوں آپس میں لڑائی جھگڑے سے باز آجائیں گے۔

## رشتہ کے لیے

اگر کسی لڑکی یا لڑکے کا کسی جگہ پر رشتہ نہ ہوتا ہو یا کوئی رشتہ لے کر ہی نہ آتا ہو یا رشتہ طے ہونے کے بعد جلد ٹوٹ جاتا ہو تو وہ ہر روز نماز عشاء کے بعد باوضو حالت میں قبلہ رخ ہو کر مصیٰ پر بیٹھے اور اکثر مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر نہایت انگساری سے بارگاہ الہی میں اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے۔ اکیس یوم تک بلاناغہ اسی طرح کرے۔ بفضل باری تعالیٰ بہت جلد کسی اچھی جگہ پر اس کا رشتہ ہو جائے گا اور جلد ہی شادی بھی ہو جائے گی۔

## امتحان میں کامیابی کے لیے

اگر کوئی طالب علم یا کوئی بھی امتحان میں حسبِ منشاء کامیابی کا خواہاں ہو تو اسے چاہیے کہ وہ جب امتحان گاہ میں جائے تو باوضو حالت میں جائے اور اپنی

جگہ پر بیٹھ کر پہلے تین مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے اور اپنے اوپر دم کر کے اپنے دل میں امتحان میں کامیابی کی دعا مانگ کر پھر چپ بکھنا شروع کرے۔ امتحان کے دوران ہر روز اسی طرح کرے انشاء اللہ تعالیٰ تمام امتحانی سوالات کے جوابات اس کے لیے آسان ہو جائیں۔ آیتہ الکرسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ضرور امتحان میں کامیابی سے سرفراز فرمائے گا۔

## قبولیت دعا کے لیے

جو کوئی کسی خاص مقصد میں کامیابی چاہتا ہو تو اس کے لیے چاہیے کہ آیتہ الکرسی کا عمل اس طرح سے کرے، نمازِ ظہر کے بعد دو رکعت نفل نماز پڑھے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد اکیس مرتبہ درود پاک پڑھے پھر اکیس مرتبہ یہ پڑھے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ ط اس کے بعد اکیس مرتبہ استغفار پڑھے اور کہے اسْتَغْفِرُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ غَفَّارُ الذُّنُوبِ وَسَّارُ الْعُيُوبِ اَلتَّوْبِ اِلَيْهِ اس کے بعد اکیس مرتبہ درود پاک پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے انشاء اللہ تعالیٰ جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبولیت کی سند عطا فرمائے گا۔

## جان بچ جائے

اگر کسی کو حاکمِ وقت نے ناجائز طور پر جان سے مار دینے کا حکم صادر کر دیا ہو جبکہ وہ بیگناہ ہو اور اپنی جان بچانے کی فکر میں ہو تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر کے

پاکیزہ لباس پہنے اور بغیر کسی کے ساتھ کلام کرنے کے آیتہ انکرسی بکثرت پڑھتا ہو احکم کے سامنے جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ حاکم اس کی جان بخشی کر دے گا اور اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔

## غیر عورتوں کی طرف سے توجہ ہٹانا

جو کوئی کسی ایسی جگہ پر کام کرتا ہو جہاں عورتوں کی بھی ایک تعداد موجود رہتی ہو اور وہاں پر عورتوں کا آنا جانا ہو جس کی وجہ سے اس کو ہر وقت نفسانی خطرہ درپیش رہتا ہو یا اس کو کسی غیر عورت میں دلچسپی پیدا ہو گئی ہو مگر وہ چاہتا ہو کہ اس کا میلان اس کی طرف نہ ہو کئی بار اپنی توجہ ہٹانے اور دل سے اس کے خیال کو مٹانے کی کوشش کر چکا ہو اور کامیابی نہ ہوتی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ با وضو حالت میں نو مرتبہ آیتہ انکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے اور اس عورت کے پاؤں کے نیچے کی مٹی لے کر اس پر یہ پڑھ کر دم کرے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - یَا سَمِیْتَا الَّذِیْ یُقَلِّبُ  
السَّمْسَ مِنَ الْمَغْرِبِ اِلَى الْمَشْرِقِ ۝

دم کرنے کے بعد وہ مٹی اس کی طرف پھینک دے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس کے دل سے اس عورت کا میلان دور ہو جائے گا اس کا قلب مطمئن ہو جائے گا۔

## غربت دور ہو جانے

جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی مفلسی و غربت دور ہو جائے ہمیشہ دولت مند رہے

کبھی زندگی میں مالی پریشانی نہ آئے اور جہاں بھی جائے لوگ اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئیں۔ چشمِ خلالت میں مقبول و معزز ہو جائے۔ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت و وقار پیدا ہو جائے۔ دن بدن اس کے مناصب میں ترقی ہوتی رہے۔ اگر حاکم وقت کے سامنے جائے تو وہ مہربانی سے پیش آئے تو اسے چاہیے کہ وہ با وضو حالت میں ہرن کی جھلی پاک و صاف کر کے اس پر عرق و گلاب مشک اور زعفران سے ذیل میں دیا ہوا نقش پاک لکھے اور اپنے پاس رکھے انشاء اللہ تعالیٰ مطلوبہ مقصد میں کامیابی ہوگی۔

۱۱۱۱	۱۶۵	۱۳	۴۵۴	ازلت
۱۳۳	۴۵۳	۶۹	۱۱۱۴	۶۳
۷۱	۱۱۱۲	اللہ	۱۴۱	۴۵
۶۴	۱۳۵	۴۵۳	۷۰	۱۱۱۵
۲۲۲	۲۳	۱۱۲۲	۶۲	انت ۴۵۱

## آسیب سے نجات کے لیے

آسیب و جن سے نجات کے لیے ذیل میں دیا ہوا نقش نہایت ہی تیرسرف بے اگر کسی مکان یا دکان میں آسیب ہو یا جن ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جو تنگ

کرتی ہونفقان پہنچاتی ہو تو چاہیے کہ ذیل میں دیا ہوا نقش با وضو حالت میں لکھ کر اپنے پاس رکھے اور گھر یا دکان کی دیوار پر ایک نقش لکھ کر چپاں کر دے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جن یا آسیب کسی طرح کا نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ گھر اور دکان آسیب کے اثر سے محفوظ ہو جائے گی اور آسیب دفع ہو جائے گا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یعنی یا عزیزائیل	لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ	یعنی یا جبرائیل
ملیقا فاتیقا کافیقا تاتیقا علیقا	اللہ لا الہ الا هو الٰہی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السموات وما فی الارض من ذالذی یشفع ہندۃ الاباذنہ ط یعلو ما بین ایدیہو وما خلقہو ولا یحیطون بشئی من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السموات والارض ولا یوردہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ ابرہہ سبر ساسلہ ساسار	درصہ اللہ العظیمین والذین سید الظلمین الذین سار الحق رسا ما ساسا ساسا
یعنی یا اسرائیل	اللہ لا الہ الا هو محمد رسول اللہ	یعنی یا میکائیل

مصیبت سے بچاؤ کے لیے

اگر کوئی ایسی مصیبت ہو جو کسی طرح بھی نہ ملتی ہو تو چاہیے کہ اشراق کی وقت

دو رکعت نقل نماز اس طرح سے ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیتہ الکرسی پڑھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اکیس مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے اور پھر یہ دعا بھی پڑھے۔

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَصْبَحْتُ بِكَ لَا اَسْتَطِیْعُ دَفْعُ مَا اَكْرَا وَلَا اَمْلِكُ نَفْعُ  
مَا اَرَجُوْا اَصْبَحْتُ مُرْتَهِنًا بِالْعَلِیِّ وَاَصْبَحَ اَمْرِیْ بِيَدِ غَیْرِیْ فَلَا یَقِیْرُ  
اَفْقَرُ مِنْیْ اَللّٰهُمَّ لَا تُسْمِتْ لِیْ عَدُوِّیْ وَلَا تُسَوِّیْ صِدِّیْقِیْ وَلَا تَجْعَلْ  
مُصِیْبَتِیْ فِیْ دِیْنِیْ وَدُنْیَاوِیْ وَلَا فِیْ الْاٰخِرَةِ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْیَا الْاٰخِرَهِیْ  
وَلَا تُسَیِّطْ عَلَیَّ مَنْ لَا یُرْحَمُنِیْ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الذُّنُوْبِ الَّتِیْ  
تَذِیْلُ بِهَا النَّعُوْمَ وَمِنَ الذُّنُوْبِ الَّتِیْ تُوجِبُ بِهَا النَّفْسَ بِرَحْمَتِكَ  
یا ارحم الراحمین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آیت الکرسی کی برکت سے  
انشاء اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مشکل و مصیبت دور ہو جائے گی۔

دشمن کے شر سے محفوظ رہے

اگر کوئی دشمن کی حرکات کے باعث بہت زیادہ تنگ اور پریشان ہو اور دشمن  
کسی طرح باز نہ آتا ہو تو چاہیے کہ با وضو حالت میں ہر روز بلاناغہ چالیس یوم تک کسی بھی  
وقت پہلے سات مرتبہ دودھ پاک پڑھے پھر سات مرتبہ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ  
الرَّجِیْمِ پڑھے اس کے بعد تین مرتبہ آیتہ الکرسی اس طرح سے پڑھے کہ جب  
دَلَّیْلُ یُوَدِّعُ حِفْظُھُمَا وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ پہنچے تو دشمن کا تصور کرتے ہوئے  
تین مرتبہ اس کی تکرار کرے اس طرح آیتہ الکرسی پڑھنے کے بعد بارگاہِ الٰہی میں

دعا مانگے انشاء اللہ تعالیٰ دشمن کے شر سے محفوظ رہے گا۔ دشمن کسی طرح کا نقصان نہ پہنچائے گا بلکہ اس طرح کی دل میں پیدا شدہ دشمنی ختم ہو جائیگی اور وہ مہربانی اور صلح کی طرف مائل ہوگا اور صلح پر مان جائے گا۔

## عربی نقش آیتہ الکرسی

آگے دیا ہوا نقش آیتہ الکرسی کا ہے۔ بے شمار برکات و فوائد کا حامل ہے جو کوئی اس نقش کو اپنے بازو پر باندھے تو تمام آفات و بلیات سے محفوظ رہے اگر سفر کی حالت میں ہو تو بخیر و عافیت سفر طے ہو اور سلمتی سے اپنی منزل پر پہنچے۔ بیمار اپنے پاس رکھے تو اسے جلد صحت یابی ہو۔ اللہ تعالیٰ شفا لے گا ملہ سے نوازے۔ میدان جنگ میں جائے تو جان سلامت رہے اور کامیاب لوٹے۔ زعفران اور مشک سے لکھ کر اگر حاملہ عورت اپنی کمر میں باندھے تو اس کا حمل قائم رہے اور تکالیف سے بچی رہے۔ مگر بچے کی ولادت سے قبل اپنی کمر سے انگ کر لے۔ اس نقش کو اپنے بازو پر باندھ کر اگر دشمنوں میں چلا جائے تو دشمن کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ آیتہ الکرسی کی برکت سے حملہ مصائب سے بچا رہے جس پر آسیب کا سایہ ہو یا جن بھوت تنگ کرتے ہوں تو یہ نقش لکھ کر آسیب زدہ کے گلے میں ڈالے۔ انشاء اللہ تعالیٰ آسیب دفع ہو جائے اور تنگ نہ کرے۔ آسیب سے خلاصی ہو جائے۔ غرضیکہ آیتہ الکرسی کا یہ نقش مبارک اپنے پاس رکھنے سے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے۔

نقش اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں۔

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ اکبر الہ الاکبر	الحی القیوم	لاتاخذہ سنة ولا نوم	لہ ما فی السوات	وما فی الارض	من ذا الذی یشفع عندہ	الک بازنہ	یعلم ما بین ایدیہم
الحی القیوم	لاتاخذہ سنة ولا نوم	لہ ما فی السوات	وما فی الارض	من ذا الذی یشفع عندہ	الک بازنہ	یعلم ما بین ایدیہم	وما خلقہم
لاتاخذہ سنة ولا نوم	لہ ما فی السوات	وما فی الارض	من ذا الذی یشفع عندہ	الک بازنہ	یعلم ما بین ایدیہم	وما خلقہم	ولا یحیطون بشیئی من عندہ
لہ ما فی السوات	وما فی الارض	من ذا الذی یشفع عندہ	الک بازنہ	یعلم ما بین ایدیہم	وما خلقہم	ولا یحیطون بشیئی من عندہ	الاکبر بشأہ
وما فی الارض	من ذا الذی یشفع عندہ	الک بازنہ	یعلم ما بین ایدیہم	وما خلقہم	ولا یحیطون بشیئی من عندہ	الاکبر بشأہ	السوات والارض
من ذا الذی یشفع عندہ	الک بازنہ	یعلم ما بین ایدیہم	وما خلقہم	ولا یحیطون بشیئی من عندہ	الاکبر بشأہ	السوات والارض	ولا یؤدوہ حفظہما
الک بازنہ	یعلم ما بین ایدیہم	وما خلقہم	ولا یحیطون بشیئی من عندہ	الاکبر بشأہ	السوات والارض	ولا یؤدوہ حفظہما	وہو
یعلم ما بین ایدیہم	وما خلقہم	ولا یحیطون بشیئی من عندہ	الاکبر بشأہ	السوات والارض	ولا یؤدوہ حفظہما	وہو	العلی العظیم

## آسیبِ جل جائے

آسیب کو جلانے کی غرض سے عامل کو چاہیے کہ مشک، زعفران اور عرق گلاب سے کاغذ پر اکتالیس مرتبہ آیتہ انکرسی لکھے یا ہر کاغذ پر انگ انگ ایک ایک بار آیتہ انکرسی لکھے کہ اسی طرح اکتالیس کاغذ پورے کرے اور پانی میں گھول کر آسیب زدہ پر چھڑکنے سے پہلے اکتالیس مرتبہ آیتہ انکرسی پڑھ کر دم کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ آسیب جل جائے گا اور اس سے خلاصی ہو جائے گی۔

## اولادِ نرینیہ کے لیے

جو کوئی اولادِ نرینیہ کا خواہاں ہو تو چاہیے کہ جمعرات کی شب نمازِ عشاء کے بعد با وضو حالت میں پانی کا برتن اپنے سامنے رکھ کر تین سو مرتبہ آیتہ انکرسی پڑھے اور ہر بار پڑھنے پر یعنی ایک دفعہ پڑھنے کے بعد پانی پر دم کرنا چائے یہ دم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے حصول کی دعا مانگے اور پانی حاملہ کو پینے کے لیے دے۔ حاملہ یہ دم کیا ہو یا پانی ایک جمعرات سے دوسری جمعرات تک ہر روز پئے۔ پھر اگلی جمعرات کو بھی اسی طرح عمل کرے اور حاملہ کو دم کیا ہو یا پانی پلکے جب تک بچے کی ولادت نہ ہو جائے حاملہ ہر روز یہ پانی پئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اولادِ نرینیہ کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ آیتہ انکرسی کی برکت سے نیک اور صالح صحت مند بیٹے سے نوازے گا۔

## مُراد پوری ہو جائے

اگر کسی کی کوئی ایسی مراد ہو جو وہ کسی کو بتانا نہ چاہتا ہو۔ مگر چاہتا ہو کہ اس کی یہ خواہش ضرور پوری ہو تو ہر طرح کی جائز اور اچھی مراد کو جلد پانے کی غرض سے چاہیے کہ نمازِ فجر کے بعد نہایت توجہ دیکھوئی کے ساتھ ستائیس مرتبہ آیتہ انکرسی پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ پھر نمازِ مغرب کے بعد سترہ مرتبہ آیتہ انکرسی پڑھے اور دعا مانگے چالیس یوم تک بلا ناغہ اسی طرح کرے انشاء اللہ تعالیٰ مقہورے ہی دنوں میں مُراد پوری ہو جائے گی اور حسبِ نیتا ہوگی

## عزّت و مرتبہ کے لیے

جو کوئی اپنے مرتبہ و عزت میں بلندی اور اضافے کا خواہاں ہو تو ہر روز نمازِ فجر کے بعد اپنے مقصد کا تصور کرتے ہوئے اکتالیس مرتبہ آیتہ انکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے چند دنوں میں ہی اس کے لیے اچھے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لوگ عزت و احترام سے پیش آئیں گے۔ جہاں بھی جائے گا ہر کوئی اسے عزت دے گا۔

## نافرمان اولاد کے لیے

اگر کوئی اپنی نافرمان اولاد کے ہاتھوں بہت پریشان ہو۔ اولاد ان کا کہنا نہ مانتی ہو تو چاہیے کہ کسی میٹھی چیز پر ایک سو گیارہ مرتبہ آیتہ انکرسی پڑھ کر

اپنے مقصد کا تصور کرتے ہوئے دم کرے اور اپنے بچوں کو کھلائے ہر جمعرات کو اسی طرح کرے۔ سات جمعرات تک اس عمل کے کرنے سے انشاء اللہ تعالیٰ اولاد تا بعماری کرگی اور تنگ کرنا چھوڑ دے گی۔

## نیند میں کمی کے لیے

اگر کسی کو بہت زیادہ نیند آتی ہو اور دن چڑھے تک سویا رہتا ہو اکثر نماز فجر قضا ہو جاتی ہو تو وہ ہر روز با وضو حالت میں رات کو سونے سے پہلے تین مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر اپنے مقصد کا تصور کر کے اپنے اوپر دم کر کے سو جائے بفضیل باری تعالیٰ اس کی نیند کم ہو جائے گی اور حیب اٹھنا چاہے گا آیتہ الکرسی کی برکت سے صبح وقت پر اس کی آنکھ کھل جائیگا۔

## بخار کے لیے

جس کسی کو لہرزے کا بخار آتا ہو تو اس کے لیے با وضو حالت میں پہلے دن سفید کاغذ پر یہ لکھے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَیُّوْمُ  
اخر جی یا حمی باذن اللہ و عزوجل لکھنے کے بعد تین مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے اور تعویذ پر دم کرے اس تعویذ کو پانی میں گھول کر مریض کو پلائے۔  
دوسرے دن یہ لکھے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَیُّوْمُ  
اخر جی یا حمی بقدرۃ اللہ عزوجل لکھنے کے بعد اس پر بھی تین مرتبہ

آیتہ الکرسی پڑھ کر دم کرے اور پانی میں گھول کر مریض کو پلائے۔ تیسرے دن یہ لکھے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَاَنْتَ الْوَجُوْدُ لِذِیِّ الْقَیُّوْمِ  
اخر جی یا حمی بحق عیسیٰ ابن مریم علیہما السلام لکھنے کے بعد تین مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر دم کرے اور پانی میں گھول کر پلا دے۔ انشاء اللہ تعالیٰ بخار کا عارضہ دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شفا کے کاملہ نصیب فرمائے گا۔

## خاص حاجت کے لیے

علامہ شیخ احمد دیربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت تحریر فرماتے ہیں کہ جس کسی کی کوئی حاجت ہو تو پہلے بیدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن روزہ رکھے۔ جمعہ کے دن غسل کر کے جامع مسجد میں جائے۔ راستے میں جاتے ہوئے حسب توفیق صدقہ و خیرات کئے نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا کرے

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِاَسْمِکَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَیُّوْمُ لَا تَاْخُذُکَ سِنَةٌ  
وَلَا نَوْمٌ لَّهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ مِنْ  
ذٰلِکَ الَّذِیْ یَسْتَفْعِعُ عِنْدَکَ اِلَّا بِاِذْنِکَ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ  
اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَالَّذِیْ تَنْتَ لَہِ الْوَجُوْدُ  
وَخَشَعَتْ لَہِ الْاَصْوَاتُ وَوَجِلَتْ الْقُلُوْبُ مِنْ  
خَشِیَّتِہِ اَسْئَلُکَ اَنْ تَصَلِّیْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَىٰ إِلَيْهِ وَصَّيْبِهِ وَآن تَقْضِي حَاجَتِي

اس جگہ پر اپنی حاجت کا نام لے۔ انشاء اللہ تعالیٰ حاجت ضرور پوری ہوگی

## حافظہ مضبوط ہو

اگر کسی کا حافظہ اس قدر کمزور ہو کہ اسے کوئی بھی بات زیادہ دیر تک یاد نہ رہتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نماز فجر کی سنت و فرض نماز کے درمیان گیارہ مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے اس کے علاوہ عرق گلاب اور زعفران سے ایک سفید کاغذ پر آیتہ الکرسی لکھے اور گیارہ یوم تک بلاناغہ پی لے۔ انشاء اللہ تعالیٰ حافظہ خوب مضبوط ہو جائے گا۔

## پیٹ کی خرابی

جس کسی کا پیٹ خراب ہو تو با وضو حالت میں عرق گلاب، زعفران اور خالص شہد سے ایک چینی کی صاف پیٹ پر صبح کے وقت آیتہ الکرسی لکھے اور تازہ پانی سے دھو کر مریض کو پلانے اسی طرح شام کو بھی کرے بفضل باری تعالیٰ چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا۔ اکیس یوم تک بلاناغہ یہ عمل کرنے سے انشاء اللہ تعالیٰ صحت یابی ہوگی۔

## منظر کی کمزوری

منظر کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اور بینائی میں اضافے کے لیے

چاہیے کہ ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر اپنی انگشت شہاد پر دم کرے اور اپنی آنکھوں پر یہ انگلی پھیرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اکیس دنوں تک ہر روز ہر نماز کے بعد اسی طرح یہ عمل کرے انشاء اللہ تعالیٰ آنکھوں کی روشنی تیز ہو جائے گی۔

## حمل قائم رہے

اگر کسی عورت کا حمل قائم نہ رہتا ہو ضائع ہو جاتا ہو یا بچہ پیدائش کے بعد فوت ہو جاتا ہو تو چاہیے کہ جب عورت حاملہ ہو جائے تو با وضو حالت میں محفوظے سے گڑ پر ہفتہ یا اتوار کے دن تین مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر دم کرے اور حاملہ کو کھلانے۔ تین ماہ تک ہر ہفتہ یا اتوار کے دن یہ عمل کرے۔ گڑ پر آیتہ الکرسی دم کرتے ہوئے اور حاملہ کو کھلاتے ہوئے اس بات کا خاص طور پر خیال کرے کہ اس دوران کسی کا سایہ نہ پڑے۔ بفضل باری تعالیٰ حاملہ کا حمل قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا اور جو بچہ پیدا ہوگا اس کی عمر طویل ہوگی۔

## حُب کے لیے

اس مقصد کے لیے چاہیے کہ گیارہ عدد اخروٹ لے کر ہر ایک پر گیارہ گیارہ مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھ کر دم کرے اور اس کا حلوہ تیار کرے

پھر ایک پلیٹ پر عرق گلاب اور زعفران سے آیتہ الکرسی لکھے۔ اس  
 پلیٹ میں حلوہ ڈال کر لکھی ہوئی آیتہ الکرسی کو حلوے سے ملائے اور  
 یہ حلوہ مطلوب کو کھلائے اور خود بھی کھائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ مطلوب کے  
 دل میں اس کی خوب محبت پیدا ہو جائے گی۔

